

القواعد الأخضرية للفرائض الافتراضية

# تواعد ميراث مختصر

تأليف:

فتیہ العصر حضرۃ مولانا

حُفَیْ حُبِیْلُ اللَّهِ تَحْمِلُ ذَنْبَ

ترتيب وتدوین

خلیل محمد صالح

ادلة اشرافية في التحقيق الجنوبي للأمية الاهوازية

﴿القواعد الاخصرية للفرائض الاكثرية﴾

## مختصر

# قواعد ميراث

تأليف

فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی قدس سرہ

ترتیب و تدوین

مولانا خلیل احمد تھانوی مد ظلہم

ناشر

ادارہ اشرف التحقیق والجوث الاسلامیہ

جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ ۲۹۱ - کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

## ﴿عرضِ مرتب﴾

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلة والسلام

على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه اجمعين۔

حضرت اقدس مولانا مفتی جلیل احمد صاحب تھانوی قدس سرہ نے ۱۳۶۰ھ میں فتاوی نویسی کا آغاز حکیم الامت مجدد المدح حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی زیر پرستی کیا۔ اور ۱۳۵۱ھ تک آپ اس منصب جلیل پر فائز رہے۔ آپ نے ہزاروں فتاوی تحریر فرمائے۔ فتاوی نویسی میں آپ کا ایک ممتاز مقام تھا علماء اور مفتیان کرام آپ کے فتاوی پر اعتماد فرماتے تھے۔ فتاوی نویسی میں آپ کی مجتہدانہ شان تھی۔ میراث کے مسائل لکھنے میں بھی آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ حصہ کو بہت آسانی اور سہولت سے نکال کر لکھ دیا کرتے تھے۔ آپ نے حصہ نکالنے کے لئے خود کچھ قواعد وضع کئے ہوئے تھے جن کی وجہ سے میراث کے حصوں کا معلوم کرنا بہت آسان تھا۔ جامعہ اشرفیہ میں چونکہ نقل فتاوی کا اہتمام نہیں تھا اس لئے جہاں آپ کے ہزاروں فتاوی ضائع ہوئے وہاں آپ کی اس قسم کی مجتہدانہ کاوشیں بھی ضائع ہو گئیں۔ اخترنے بھی حضرت سے کئی مرتبہ زبانی ایک دو قاعدے ایسے سنے ہوئے تھے کہ جس کی مدد سے حصہ کا معلوم کرنا بہت آسان تھا۔ لیکن وہ کسی جگہ محفوظ نہ تھے۔

غالباً حضرت نے اپنی عمر کے آخری ایام میں ان قواعد کو ایک مختصر رسالے کی شکل میں لکھنے کا ارادہ فرمایا اور اس رسالے کا نام ”القواعد الاخصرية للفرانض الکثرية“

رکھا۔ لیکن صرف چند قواعد ہی لکھ پائے کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ اگر یہ رسالہ مکمل ہو جاتا تو اپنی نظیر آپ ہوتا۔ اور نوآموز مفتیوں کے لئے انتہائی مفید۔

حضرت نے قواعد چند کاغذات پر لکھ کر اپنی کتابوں میں کسی جگہ رکھ دیئے اور بھول گئے اخقر نے جب حضرت کے ان فتاویٰ پر کام شروع کیا جو آپ نے ۱۳۶۰ھ سے ۱۳۶۳ھ تک حضرت تھانوی کی زیر نگرانی لکھے تھے تو آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کاغذات اخقر کو ملے جن جس میں یہ چند قواعد درج تھے۔ جس کے آخر میں آپ نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان قواعد کو نقل کرنے سے پہلے ذوی الفروض کی تعریف و تقسیم اور حصص کی مقداریں لکھی جائیں۔ آخر عمر میں چونکہ لکھتے ہوئے ہاتھ مل جاتا تھا اور نظر بھی کمزور ہو گئی تھی اس لئے بعض جگہ حروف چھوٹ گئے اور بعض جگہ سطور ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی تھیں۔ اخقر نے بمشکل ان قواعد کو پڑھ کر نقل کیا اور حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کو دکھایا تو آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت کی خواہش کے مطابق تم ذوی الفروض کی تعریف و تقسیم اور حصص کی مقداریں مختصر انداز میں تحریر کر دو اور یہ قواعد اس کے بعد لکھ دیئے جائیں تو ان کو ایک رسالہ کی شکل میں شائع کر دیا جائے ملا۔ یدرک کله لا یترک کله کے بمصداق حضرت نے جتنا لکھا ہے اس سے تو اہل علم مستفید ہو سکیں اور پھر شاید کوئی مفتی ان قواعد کو دیکھ کر کچھ اور ایسے ہی کلیات منضبط کر دیئے تو لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوں۔

چنانچہ میں نے اختصار کے ساتھ ابتداءً ذوی الفروض کے حصص اور ان کی تعریفات کو درج کیا۔ اور اس کے بعد حضرت کے تحریر فرمودہ قواعد اور مثالوں کو ذکر

کیا۔ کہیں کہیں اگر بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وضاحت کے عنوان سے اس کی تسهیل کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور بعض مثالیں خود اپنی طرف سے بھی لکھی ہیں، لیکن ہر اس عبارت اور مثال کے بعد جو میں نے لکھی ہے (۱۲خ) کی علامت لکھدی ہے۔ میں نے یہ رسالہ برادر مکرم استاذ محترم حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ لاہور کی خدمت میں پیش کیا آپ نے پورے رسالہ کو ازاں تا آخر دیکھنے کے بعد مفید مشوروں سے نوازا جن کے مطابق اس کی اصلاح کی گئی آپ نے فرمایا کہ رسالہ کا تعلق چونکہ میراث سے ہے اس لئے کم از کم ایک دو مفتیوں کو بھی دکھالیا جائے چنانچہ آپ کے حکم سے یہ رسالہ اپنے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی دامت برکاتہم اور برادر مکرم مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہ کو ملا حظہ کے لئے ارسال کیا میں ان دونوں حضرات کا انتہائی شکرگزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس کو مکمل طور پر پڑھا اور مفید مشوروں سے نوازا ان کے نشاندہی کردہ مقامات پر ترمیم بھی کر دی گئی ہے۔ رسالہ کے شروع میں ان حضرات کے خطوط بھی بعنوان تقریظ شائع کئے جا رہے ہیں۔ نیز برادر محترم شیخ الحدیث مولانا مشرف علی تھانوی مدظلہم نے بھی اس رسالہ کے متعلق چند کلمات با برکات تحریر فرمائے ہیں جو اس رسالہ کی ابتداء میں تبرکات شامل کر دیئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ میری اسی کاوش کو قبول فرمائے، حضرت کے لئے اس کو بلندی درجات اور احقر کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے آمین۔

(خلیل احمد تھانوی)

# فہرست مضمایں

صفحہ	عنوان
۳	عرض مرتب
۹	کلمابت بابرکات شیخ الحدیث حضرت مولانا مشرف علی تھانوی دامت برکاتہم العالیہ
۱۰	تقریظ استاد المکرّم و محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی دامت برکاتہم
۱۱	تقریظ حضرت مولانا مفتی سید عبدالقدوس صاحب ترمذی
۱۲	حالاتِ مصنف (فقیہ العصر مفتی جمیل احمد تھانوی)
۱۶	وارثوں کی تعریف و تقسیم
۱۶	(۱) ذوی الفروض .....
۱۶	(۲) عصبات نسبی .....
۱۶	(۳) ذوی الارحام .....
۱۷	ذوی الفروض اور ان کے حصوں کی تفصیل
۱۸	(۱) باپ کی میراث .....
۱۸	(۲) دادا کی میراث .....
۱۹	اخیانی بھائی کی میراث .....
۲۰	شوہر کی میراث .....
۲۰	زوجہ کی میراث .....
۲۱	مال کی میراث .....
۲۱	بیٹی کی میراث .....
۲۲	پوتی کی میراث .....
۲۲	حقیقی ہمشیرہ (سگی بہن) کی میراث .....
۲۳	علاتی بہن کی میراث .....

## فہرست مضمون

۲۵	اخیانی بہن کی میراث .....
۲۶	ذوی الفروض دادیاں - صحیح .....
۲۷	وراثت کا حصہ .....
۲۸	نانیوں کی میراث .....
۲۸	وراثت میں حصہ .....
۳۰	ذوی الفروض کے مقرر شدہ حصے مع تفصیل مستحقین .....
۳۱	عصبات اور ان کے حصوں کی تفصیل و تقسیم .....
۳۲	عصبہ کا حصہ .....
۳۳	تبیہات .....
۳۴	ذوی الارحام اور ان کے حصوں کی تقسیم .....
۳۵	درجات ذوی الارحام .....
۳۶	ذوی الارحام کا حصہ .....
۳۶	القواعد الاخصرية للفرائض الاکثرية .....
۳۷	طریقہ تقسیم .....
۳۸	دوسری مثال .....
۳۸	طریقہ تقسیم .....
۳۹	تیسرا مثال .....
۴۰	چوتھی مثال .....
۴۱	قاعدہ نمبر ۲ .....
۴۱	مثال .....
۴۲	دوسری مثال .....

## فہرست مضمایں

۳۲	.....	تیسرا مثال
۳۳	.....	چوتھی مثال
۳۴	.....	قاعدہ نمبر ۳
۳۵	.....	دوسری مثال
۳۵	.....	تیسرا مثال
۳۶	.....	چوتھی مثال
۳۶	.....	قاعدہ نمبر ۶
۳۷	.....	دوسری مثال
۳۷	.....	تیسرا مثال
۳۷	.....	چوتھی مثال
۳۸	.....	قاعدہ نمبر ۵: اگر ذوی الفرض میں سے ایک ہو
۳۸	.....	پہلی مثال
۳۹	.....	دوسری مثال
۴۰	.....	تیسرا مثال
۴۰	.....	چوتھی مثال
۴۲	.....	پانچویں مثال
۴۲	.....	چھٹی مثال
۴۳	.....	قاعدہ نمبر ۶: مع ذوی الفرض دو بیک نوع
۴۳	.....	مثال
۴۴	.....	دوسری مثال

## ﴿ کلمات بابرکات ﴾

شیخ الحدیث حضرت مولا نامشرف علی تھانوی دامت برکاتہم العالیہ

مہتمم جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ۔ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت کے جلیل القدر مفتی اعظم کی حیثیت سے کم و بیش پچاس سال خدمات انجام دیتے رہے۔ والد صاحب کا انداز انتہائی تحقیقی اور مدلل ہوتا تھا۔ وہ اپنے مسلک و مشرب میں نہایت مضبوط تھے لیکن اس کے ساتھ ان کی کوشش یہ رہتی کہ مسائل کو عام فہم اور سہل العمل انداز میں پیش کیا جائے۔ علم میراث ”نصف العلم“ کہلاتا ہے، اس کی صورتیں عام طور پر مشکل ہوتی ہیں، جن میں مفتی حضرات کو بھی سہام نکالنے اور ورثاء پر ان کو منطبق کرنے میں بعض مرتبہ خاصی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لئے والد صاحب قدس سرہ نے عام پیش آنے والی صورتوں کے لئے آسان ترین قواعد مرتب فرمار کھے تھے، جن کو سمجھنے کے بعد مفتی حضرات کے لئے حصے نکالنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ برادر عزیز مولوی خلیل احمد سلمہ نے ان قواعد کو مرتب کیا، بعض جگہ مزید تسہیل کی، اور قواعد سے پہلے ورثاء کی قسمیں اور حصہ نکالنے کے طریقے آسان انداز میں لکھ کر رسالہ کی افادیت کو دو چند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ برادر عزیز کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیں، اور والد صاحب کے فیوض کی قبولیت میں شریک فرمائیں۔ امین

مشرف علی تھانوی

۲۳ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

## ﴿تقریط﴾

استاذ مکرّم و محترم حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی دامت برکاتہم  
 (استاذ الحدیث و مفتی دارالعلوم کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عزیز القدر برادر مولانا خلیل احمد تھانوی صاحب زاد اللہ مکرم و مدارجکم  
 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ

آپ کا محبت نامہ رسالہ کے ہمراہ ڈیڑھ ماہ قبل موصول ہوا تھا۔ تاخیر سے جواب  
 دینے پر مغذرت خواہ ہوں۔ احقر نے کپوز شدہ رسالہ پورا دیکھ لیا ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ  
 آپ نے حضرت رحمہ اللہ کے متروکات و تبرکات کی قدر کی اور عمومی فائدہ کے لئے انہیں  
 آسان سے آسان تر بنادیا جزاً کم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء من عنده۔

۱۔ رسالہ شروع سے آخر تک دیکھا کہیں کچھ ترمیم یا ایک دولفظ کے اضافہ کی  
 ضرورت محسوس کی تو پسل سے اسے تحریر کر دیا ہے۔ کپوزنگ کی جو غلطی نظر آئی وہ بھی ٹھیک  
 کر کے حاشیہ میں درج کر دی ہے۔

۲۔ حضرت قدس سرہ کے اصل عربی نام کے ساتھ آپ کا طے کردہ مختصر نام ”قواعد  
 میراث“ یا ”چند قواعد میراث“ مناسب ہے۔

۳۔ آپ نے قواعد سے پہلے ورثاء اور انکے حصص کی جو تفصیل تحریر کی ہے ماشاء اللہ وہ  
 بھی درست ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ کاوشوں کو قبول فرمائیں اور انہیں حضرت قدس سرہ اور  
 آپ کے لئے صدقۃ جاریہ بنادیں۔ آمین

وَالسَّلَامُ

احقر محمود اشرف غفراللہ

## ﴿تقریب﴾

حضرت مولانا مفتی سید عبدالقدوس صاحب ترمذی مدظلہم

(مہتمم جامعہ حفانیہ ساہیوال سرگودھا)

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم

اما بعد!

احقر نے رسالہ "محض مفیدہ قواعدِ میراث" پڑھنے کی سعادت حاصل کی فقیہہ  
امت حضرت اقدس مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی مسیح سرہ نے میراث کے کثیر  
الاستعمال مسائل کے لئے جوز ریس قواعد تحریر فرمائے ہیں وہ یقیناً نہایت نافع اور مفید  
ہیں ان کے ذریعہ وارثت کے حصے نکالنے میں بڑی سہولت پیدا ہو گئی ہے امید ہے کہ  
اہل علم ان کی قدر کریں گے۔

برادرم محترم جناب مولانا قاری خلیل احمد تھانوی مدظلہم نے ان قواعد کی  
مزید تسلیم و توضیح کے ساتھ ان سے قبل نہایت آسان انداز میں شرعی ورثاء کے احوال  
و حصہ بھی بیان فرمادیئے ہیں جس سے اس رسالہ کا نفع دوچند ہو گیا ہے۔ والحمد  
للہ علی ذالک و جزی اللہ تعالیٰ المؤلف العلام رحمہ اللہ وابنه الفاضل  
خیر الجزاء و رزقہما عیشہ مرضیہ و عاقیۃ حسنة

حق تعالیٰ اس مختن کو قبول فرمائیں اور رسالہ هذا کے نفع کو عام و تام فرمائیں۔ آمین۔

احقر سید عبدالقدوس ترمذی غفرلہ والوالدیہ۔

جامعہ حفانیہ ساہیوال سرگودھا

۳۰ ذوالحج سنہ ۱۴۲۳

## ﴿ مختصر حالاتِ مصنف رحمہ اللہ ﴾

فیقیہ العصر حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی قدس سرہ ۱۰ شوال ۱۳۲۲ھ  
 بمرطابق ۱۹ نومبر ۱۹۰۳ء کو تھانہ بھون میں پیدا ہوئے۔ آپ نبأ فاروقی، مسلمان حنفی اور مشراہ  
 تھانوی تھے۔ جبکہ آپ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطابؓ سے جاتا ہے۔  
 آپ کی والدہ محترمہ کا تعلق راجو پور ضلع سہارنپور کے ہاشمی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد  
 گرامی مولانا سعید احمد تھانوی ملازمت کے سلسلہ میں علی گڑھ رہتے تھے۔ آپ نے قرآن  
 پاک کی ناظرہ تعلیم اپنی نانہاں راجو پور میں حاصل کی۔ بچپن ہی میں آپ اپنے والد اور  
 والدہ کے ہمراہ علی گڑھ تشریف لے گئے۔ جہاں آپ کو ایک انگریزی سکول میں داخل کر دیا  
 گیا۔ جارج چخم کی تخت نشینی کے موقع پر آپ کو سکول کی طرف سے ایک تمغہ بھی دیا گیا۔  
 آپ کے والد صاحب چونکہ علی گڑھ کالج میں ملازم تھے اس لئے آپ کو انگریزی کی اعلیٰ  
 تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن مفتی صاحب کار جان بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف تھا۔ اس  
 لئے آپ کے والد صاحب نے ۱۳۳۲ھ میں آپ کو حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب  
 تھانویؒ کے مدرسہ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں داخل کر دیا۔ یہاں آپ نے فارسی کتب تیر  
 المبتدی سے یوسف زلیخا تک اور عربی کتب میزان الصرف سے ہدایۃ الخوب تک پڑھیں، آپ  
 کی ابتدائی کتب کے استاد مولانا عبد اللہ گنگوہیؒ تھے۔ اس کے بعد مولانا اشFAQ الرحمن  
 صاحب کے مدرسہ جلال آباد ضلع مظفرنگر میں داخل ہوئے جہاں شرح جامی کی جماعت میں  
 آپ کو داخل کیا گیا۔

ابھی مفتی صاحب کی عمر تیرہ سال تھی کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا،  
 حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے مفتی صاحب کی عزیز داری تھی وہ  
 آپ کی والدہ صاحبہ کے پاس تعزیت کے لئے تشریف لائے اور مفتی صاحب کو تعلیم کے  
 لئے سہارنپور کے مدرسہ مظاہر علوم میں داخل کرانے کو فرمائے۔

۲۰۔ ربیع الثانی ۱۳۲۴ھ میں آپ منظاہر علوم میں داخل ہوئے، کافیہ کبیری، نور الایضاح کے اس باق آپ کے لئے تجویز ہوئے، آپ نے خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کی ہر سال آپ کلاس میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ ۱۳۲۲ھ میں آپ نے مولانا ثابت علی، مولانا عبد اللطیف اور مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری جیسے اجلہ اکابر سے دورہ حدیث شریف مکمل کر کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی، جس پر آپ کو مدرسہ کی طرف سے بہت سی کتب کے علاوہ ایک جیسی گھڑی بھی انعام میں دی گئی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے تمام کتب حدیث کی خصوصی اجازت بھی آپ کو مرحمت فرمائی۔ ۱۹ شبستان بہر طابق، ۱۹۲۵ء کو آپ کی دستار بندی ہوئی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد مفتی صاحب کو سلوک و طریقت کی تعلیم کا خیال آیا، اس کے لئے بھی آپ نے اپنی مربی و شیخ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کا انتخاب کیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں ”۱۳۲۳ھ میں بعد تعطیل شعبان الحقر بیعت ہوا مگر جرأت نہ ہوئی کہ اوراد و معمولات پوچھوں، اور نہ تعطیل میں اس کے بغیر جانے کو جی چاہا، دو دن بعد ایک اور صاحب بیعت ہوئے انہوں نے اوراد و فطیفہ پوچھا تو حضرت (مولانا خلیل احمد قدس سرہ) نے فرمایا فلاں وقت آجانا اور جمیل کو بھی لے آنا، وہ اسی انتظار میں رکا ہوا ہے۔“ (تذکرہ اخیل: جس۔ ۲۷)

۲۱۔ ۱۳۲۵ء کے قریب زمانہ میں مفتی صاحب کی شادی حضرت تھانویؒ کی ربیہ رشیدہ خاتون سے ہوئی۔ اس طرح حضرت تھانویؒ سے مفتی صاحب کا دامادی کا تعلق ہو گیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کا انتقال ۱۳۲۴ھ میں ہوا۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے اپنی اصلاح کے لئے حضرت تھانویؒ سے رجوع کیا، حضرت تھانویؒ اپنے اعزہ کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ لیکن مفتی صاحب جو نکہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کی اولاد میں سے تھے اور اب حضرت کے بھی داماد تھے۔ نیز مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری

کے مرید با صفا بھی تھے اس لئے حضرت تھانوی نے تجدید بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی البتہ آپ کو اور ادوار و ظائف بتلا دیئے اور آپ کی اصلاح باطن کا خصوصی اہتمام کیا۔ قیام پاکستان کے بعد مفتی صاحب نے حضرت تھانویؒ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد اسعد اللہ صاحب اسعدی سے بیعت کی جو مفتی صاحب کے استاد بھی تھے، مولانا نے آپ کو ۱۶ جمادی الاولی ۱۳۸۸ھ بمرطابق ۰ اگست ۱۹۶۸ء کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔

۱۳۲۲ھ میں بعد از فراغت مفتی صاحب نے اپنے استاد مریٰ اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری کے حکم سے کھمم ورنگل، حیدرآباد، دکن میں تدریس کا آغاز کیا۔ وہاں کا ماحول آپ کو پسند نہ آیا تو گیارہ ماہ کے بعد وہاں سے ترک ملازمت کر کے مظاہر علوم سہارنپور میں ملازمت اختیار کر لی اور اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی درس و تدریس کا آغاز کیا۔ اپنی خداداد صلاحیتوں، محنت اور اساتذہ کی توجہ سے آپ نے مدرسہ میں بہت جلد ایک بلند مقام حاصل کر لیا اور آپ مدرسہ میں شیخ الادب کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ ۱۳۴۷ھ تک آپ کا درس و تدریس کا تعلق مظاہر علوم سے تھا، اس دوران آپ نے میزان سے لیکر جلالین اور تفسیر ابن کثیر تک کثیر کتب متعدد مرتبہ پڑھائیں۔

۱۳۶۰ھ سے ۱۳۶۳ھ تک آپ طویل رخصت لیکر تھانہ بھون تشریف لے آئے حضرت تھانویؒ کی علالت کی وجہ سے آپ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت تھانویؒ نے اس دوران آپ کو مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون کے مفتی کی حیثیت سے مقرر کیا، جہاں آپ نے حضرت تھانویؒ کی زیر نگرانی بہت سے فتاویٰ تحریر فرمائے، حضرت تھانویؒ نے ان کا نام ”جمیل الفتاویٰ“ تجویز کیا، اور پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ احقر نے اسی مجموعہ پر کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے لئے ایک مقالہ منظور کرایا ہے جو کامل ہو چکا ہے، انشاء اللہ عنقریب ہدیہ ناظرین کیا جائے گا۔

قیام پاکستان کے بعد مفتی صاحب پاکستان تشریف لے آئے اور جامعہ اشرفیہ

لَاہور میں ۲۷ اگست ۱۹۵۲ء میں آپ کا تقرر بحیثیت رئیسِ مفتی و استاد الحدیث ہوا آپ کے زیر درس حسب ذیل کتب رہیں، دیوان متنیٰ، حماسہ، بخاری شریف، ابو داود شریف، ابن بیهی، نسائی، بدایہ اخیرین، تفسیر جلالیں، تفسیر بیضاوی وغیرہ۔ جامعہ اشرفیہ کے دارالاوفاء میں مفتی صاحبؒ کا کوئی مدد و معاون نہیں تھا۔ روزانہ بیس سے پچھیں خطوط آتے حضرت انکا جواب روز کے روز قلم بند فرماتے اور روانہ کر دیتے اس طرح بیالیں سال میں آپ نے لاکھوں فتاویٰ قلم بند فرمائے جو عقلیٰ و نقليٰ دلائل سے مزین ہوتے تھے۔ جبکہ زبانی پوچھے گئے مسائل کی تعداد تو احاطہ شمار سے باہر ہے۔

مفتی صاحب نے درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی عظیم خدمات سرانجام دیں۔ آپ کی سو سے زائد تصانیف ہیں جن میں احکام القرآن جیسی عظیم تفسیر ہے جو سورہ یونس سے سورہ فرقان تک کی تفسیر پر مشتمل ہے جس کی تقریباً سات جلدیں ہوں گی پانچ پانچ صفحات پر مشتمل تین جلدیں ادارہ اشرف التحقیق سے طبع ہو چکی ہیں، باقی زیر طبع ہیں، مختلف رسائل میں وقتی ضرورت کے تحت آپ نے بہت سے مقالات تحریر فرمائے جن کی تعداد ۴۰ سے متوجہ ہے۔

مفتی صاحب کو شعرو شاعری نے بھی خاص شغف تھا، آپ اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ القصائد العربیہ کے نام سے آپ کے عربی اشعار کا مجموعہ موجود ہے جو غیر مطبوعہ ہے۔ اردو میں آپ کی بہت سی طویل نظمیں کتابی شکل میں طبع ہو چکی ہیں مثلاً منظوم رسالہ، ضرورت مذہب، مثنوی علاج المصائب، عظمت حدیث، خرابی سینما وغیرہ۔ احقر آپ کے مجموعہ کلام کو کتابی شکل پر شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اب تک آپ کے ڈھائی ہزار اشعار احقر نے جمع کر لیے ہیں۔ بروز اتوار ۲۱ ربیعہ ۱۴۲۵ھ اب مطابق ۲۰ ستمبر ۱۹۹۳ صبح سات بجے خانقاہ اشرفیہ کا یہ ماہتاب و آفتاب ۹۱ سال اپنے علم و عرفان سے اس دنیا کو منور کرنے کے بعد غروب ہو گیا۔  
(اناللہ وانا الیہ راجعون)

## ﴿وارثوں کی تعریف و تقسیم﴾

ورثاء کی تین قسمیں ہیں (۱) ذوی الفروض (۲) عصبات نسبیہ (۳) ذوی الارحام

**(۱) ذوی الفروض:**

یعنی میت کے وہ وارث جن کے حصے اور میراث کی مقدار شریعت میں مقرر و معین فرمادی گئی ہے۔

**(۲) عصبات نسبی:**

عصبات نسبیہ سے مراد عصبة بنفسہ ہے۔ یعنی میت سے نسبی علاقہ رکھنے والے وہ لوگ جن کے رشتہ میں عورت کا واسطہ اور ذریعہ نہ ہو اور شریعت میں ان کا کچھ حصہ مقرر نہ ہو بلکہ ذوی الفروض کے پورے حصے نکال لینے کے بعد جو کچھ ترکہ باقی رہے ان کو مل جائے اور اگر باقی نہ رہے تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔

**(۳) ذوی الارحام:**

وہ وارث ہیں جن کا حصہ بھی شریعت میں مقرر نہیں اور عصبة بھی نہ ہوں بلکہ میت میں اور ان میں عورت کے علاقہ اور رشتہ سے قرابت و رشتہ ہو یا خود عورت ہوں۔

ان تین قسم کے وارثین میں ذوی الفروض سب سے مقدم ہیں جب تک ان کا حصہ پورا نہ مل جائے قسم دوم و سوم کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا درجہ عصبات کا ہے اگر ذوی الفروض کے حصے دیکر کچھ بچ جائے تو وہ عصبات کو مل جائے گا۔ اگر ذوی الفروض میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو کل ترکہ عصبات کو مل جائے گا اور ذوی الارحام محروم رہیں گے۔ اگر ذوی الفروض کو پورے حصے دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے اور کوئی عصبة وارث نہ ہو تو

جو کچھ باقی رہا ہے اس کو پھر ذوی الفروض نسبیہ پر اسی حساب اور نسبت سے تقسیم کر دیں جس حساب سے پہلے تقسیم ہوا تھا۔ مگر یاد رہے کہ زوجین کو دو بارہ نہیں دیا جائیگا۔

تیرے ذوی الارحام کو میراث اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ میت کے وارثین میں کوئی ذوی الفروض نسبیہ اور عصبة (نسبی یا سبی<sup>(۱)</sup>) میں سے موجود نہ ہو۔ لیکن اگر میت نے صرف زوجہ یا صرف شوہر چھوڑا ہو تو ذوی الارحام اس کی وجہ سے محروم نہ ہوں گے بلکہ زوجہ یا شوہر کا حصہ دینے کے بعد جو کچھ باقی رہیگا وہ ذوی الارحام لینے گے۔

### ذوی الفروض اور ان کے حصوں کی تفصیل:

ذوی الفروض یعنی وہ وارث جن کا حصہ شریعت نے مقرر و معین فرمایا ہے تیرہ ہیں۔  
چار مرد اور نو عورتیں۔

(۱) باپ (۲) دادا (۳) اختیافی بھائی (یعنی ماں شریک) (۴) شوہر (۵) زوجہ (۶) والدہ (۷) بیٹی (۸) پوتی (۹) حقیقی بہن (۱۰) علاتی بہن (۱۱) اختیافی بہن (۱۲) جدہ یعنی دادی (۱۳) نانی (میراث کی کتب میں ذوی الفروض بارہ لکھے ہیں اس لئے کہ نانی اور دادی دونوں کو جدہ کہتے ہیں اور جد درجہ بھی اگر چہ دادا اور نانا دونوں کو کہتے ہیں لیکن میراث میں جد سے مراد نانا نہیں ہے بلکہ جد صحیح ہے یعنی دادا، پر دادا وغیرہ مرد میں تو صرف جد صحیح کا اعتبار ہے لیکن عورت میں جدہ فاسدہ کا حصہ بھی شریعت میں معین ہے)۔

(۱) عصبة نسبی سے مراد غلام آزاد کرنے والا ہے اگر کسی آزاد کردہ غلام میت کے ذوی الفروض اور عصبة نسبی موجود نہ ہوں تو اس کے آزاد کرنے والے کو بطور عصبة اس کا ترکیل جاتا ہے۔ (مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی)

## ۱۔ باپ کی میراث:

باپ کا حق چھٹے حصہ سے کبھی کم نہیں ہوتا لبنتہ کسی بڑھ جاتا ہے باپ کے تین حال ہیں۔

**یہاں:** صرف چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ میت نے کوئی بیٹا یا بیٹی کی مذکراولاد یا پوتے کی مذکراولاد چھوڑی ہو۔

**دوسرا:** اگر مرنے والے کی مذکر (یعنی نرینہ) اولاد کسی درجہ میں بھی نہ ہو بلکہ بیٹی یا پوتی پڑپوتی ہو تو مرنے والے کے باپ کو چھٹے حصہ بھی ملتا ہے اور تمام ذوی الفروض موجودہ کو دینے کے بعد جو باقی رہ جائے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں باپ اپنا مقرر حصہ پانے کی وجہ سے ذوی الفروض رہا اور باقی ماندہ پانے کی وجہ سے عصبه بھی ہے۔

**تیسرا:** اگر میت کے نہ بیٹی ہے نا بیٹا نہ بیٹی کی اولاد ہے نہ پوتے پڑپوتے کی۔ تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے وہ سب باپ کو مل جائیگا اس صورت میں باپ کا کوئی حصہ مقرر نہیں بلکہ وہ عصبه محض ہو گا۔

## ۲۔ دادا کی میراث:

میت کا اگر باپ زندہ نہ ہو تو دادا کو حصہ ملے گا باپ کی موجودگی میں کچھ نہیں ملتا۔ دادا کی وراشت کے احوال:-

**یہاں حال:** دادا کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ مرنے والے کے کوئی بیٹا، بیٹا یا پڑپوتا یا پڑپوتے کی مذکراولاد کسی درجہ میں ہو۔

**دوسرا حال:** اگر مرنے والے کی کوئی مذکراولاد کسی درجہ میں بھی موجود نہ ہو بلکہ

بیٹی یا پوتی پڑپوتی موجود ہو تو دادا کو چھٹہ حصہ بھی ملتا ہے اور تمام ذوی الفروض موجودہ کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہ جائے وہ بھی ملتا ہے۔

**ذیں حال:** جب میت کے نہ بیٹی ہے نہ بیٹانہ پوتی ہے نہ پوتانہ پڑپوتی نہ پڑپوتا تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو باقی رہیگا وہ سب دادا صاحب کو مل جائیگا۔

**حرنہا حال:** دادا محروم رہیگا جب میت کا باپ زندہ ہو۔

### ۳۔ اخیافی بھائی کی میراث:

وہ بھائی جو صرف ماں میں شریک ہو باپ دونوں کا جدا ہوا س کو اخیافی کہتے ہیں یہ ذوی الفروض میں داخل ہے عصبات میں نہیں۔ اس کے تین حال ہیں:

**رہلا حال:** اگر میت کا صرف ایک بھائی اخیافی ہو یا ایک بہن اخیافی ہو تو ترکہ کا چھٹا حصہ پائے گا۔

**دوسرا حال:** اگر اس قسم کے بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں خواہ صرف بھائی ہوں یا بہن بھائی ہوں یا صرف بہنیں ہوں تو ان سب کو میت کے ترکہ کا ایک ٹکڑہ یعنی کل ترکہ کا ایک تھائی پہنچ گا۔ یہ اس کو باضم مساوی تقسیم کریں گے۔ نہ تعداد کی کمی و زیادتی کا فرق نہ عورت مرد میں فرق یہ خصوصیت صرف اخیافی بھائی بہنوں کی ہے کہ عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے۔

**تیسرا حال:** اگر میت کا بیٹا یا پوتا، پوتی یا پڑپوتا، پڑپوتی یا میت کا باپ، دادا زندہ ہو تو اخیافی بہن بھائی کو وراثت میں کچھ حصہ نہیں ملتا۔

## ۴۔ شوہر کی میراث:

شوہر میراث سے کبھی محروم نہیں ہوتا اسے میراث ملنے کی دو حالتوں میں ہیں:

**بہلی حالت:** اگر زوجہ کا انتقال ہوا اور اس نے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی نہیں چھوڑی تو شوہر کو ترکہ کا نصف حصہ ملتا ہے۔

**دوسرا حالت:** اگر زوجہ کے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی موجود ہو تو شوہر کو کل مال میں سے ربع یعنی چوتھائی ملے گا۔

## ۵۔ زوجہ کی میراث:

زوجہ بھی میراث سے کبھی محروم نہیں ہوتی اس کی وراثت کے دو احوال ہیں:

**بہلا حالت:** اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی سکڑ پوتا، سکڑ پوتی نہ ہو تو کل ترکہ میں سے زوجہ کو ربع یعنی چوتھائی دیا جاتا ہے۔

**دوسرا حالت:** اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس کے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی وغیرہ موجود ہو تو زوجہ کو صرف آٹھواں حصہ ترکہ میں سے ملتا ہے (اگر کسی کی کوئی بیویاں ہوں تو یہ آٹھواں یا چوتھا حصہ سب میں برابر تقسیم ہو جائے گا ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ آٹھواں حصہ نہیں ملے گا)۔

**نوٹ:** جس اولاد کی وجہ سے زوجہ اور شوہر کے حصوں میں کمی آتی ہے وہ یہ ہے۔ بیٹا۔ پوتا۔ بیٹی۔ پوتی۔ پوتے کا بیٹا یا بیٹی۔ پس اگر میت کی بیٹی کی اولاد یعنی نواسہ یا نواسی کی اولاد یا پوتی کی اولاد ہو اس کی وجہ سے شوہر اور زوجہ کا حصہ کم نہیں ہو گا۔

## ۶۔ مال کی میراث:

والدہ کو چھٹے حصہ سے کبھی کم نہیں ملتا اور نہ وہ محروم رہتی ہے۔ اس کے تین حال ہیں  
**یہلاکا حال:** اگر میت کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی یا میت کے دو بھائی، بہن موجود ہوں (یہ کسی بھی قسم کے ہوں حقیقی، علائقی یا اختیانی) جب ایک سے زیادہ ہوں  
 والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ خواہ صرف بھائی ہوں خواہ صرف بہنیں یا بہن بھائی دونوں ہوں۔

**دوسرا حال:** اگر مرد کا انتقال ہوا اور اس کی زوجہ اور باپ دونوں موجود ہیں۔ یا

عورت کا انتقال ہوا اور اس کے شوہر اور باپ دونوں موجود ہیں تو شوہر یا زوجہ کا حصہ شرعی نکال لینے کے بعد جو مال باقی رہے اس میں سے ایک تھائی والدہ کا حصہ ہے۔

**تیسرا حال:** اگر ذکورہ بالا وارثوں میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو میت کی والدہ کو کل مال میں سے تھائی ملیں گا۔

## بیٹی کی میراث:

بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتی اگر اس کا بھائی ساتھ ہو تو عصبه بالغیر بن جاتی ہے ورنہ ذوی الفرض رہتی ہے اس کے تین حال ہیں۔

**یہلاکا حال:** اگر صرف ایک بیٹی ہو اور کوئی بیٹا نہ ہو تو میت کے ترکہ میں سے اس کو نصف ملتا ہے (اور اگر کوئی اور وارث نہ ہو تو بقیہ نصف بھی اس کو رد کے طور پر مل جاتا ہے)۔

**دوسرا حال:** اگر دو بیٹیاں ہوں یادو سے زیادہ ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو تو ان بیٹیوں کو ترکہ میں سے دو ثلث پہنچ گا جس کو وہ برابر تقسیم کر بینگی خواہ کتنی ہی بیٹیاں ہوں۔

**تیسرا حال:** اگر بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا بھی ہو تو اس صورت میں بیٹی کا کوئی حصہ متعین نہیں بلکہ جس قدر بیٹے کو ملے گا اس کا نصف بیٹی کو خواہ ایک بیٹی ہو یا زائد، اس حالت میں بیٹیاں ذوی الفروض نہیں ہیں بلکہ بھائی کے ساتھ مل کر عصبه بالغیر ہو گئی ہیں۔

### ۸۔ پوتی کی میراث:

عرف میں بیٹے کی بیٹی کو پوتی کہتے ہیں لیکن یہاں خاص وہی مراد نہیں بلکہ پوتے پڑپوتے کی بیٹی کو بھی پوتی کہتے ہیں۔ اگر بیٹے کی بیٹی موجود نہ ہو تو پوتے کی بیٹی کو حصے ملتے ہیں اور اگر پوتے کی بیٹی نہ ہو تو پڑپوتے کی بیٹی ان ہی حصوں کی مستحق ہوتی ہے۔ پوتی کی میراث کی چھ صورتیں ہیں اور پڑپوتی وغیرہ کا حال بھی اس کے تحت میں داخل ہے۔

**بہلا حال:** اگر میت کے بیٹا، بیٹی موجود نہ ہو اور صرف ایک پوتی ہو تو اس کو ترکہ میں سے نصف ملیں گا (اگر پوتی نہ ہو تو پڑپوتی کا بھی یہی حال ہے)

**چوتھا حال:** اگر میت کے بیٹا، بیٹی موجود نہ ہو اور پوتیاں دو یا اس سے زیادہ ہوں تو ان کو کل میں سے دو تھائی دیا جائیں گا۔ اور یہ اس کو باہم تقسیم کر لیں گی (پوتی کوئی نہ ہو تو پڑپوتی کا یہی حال ہے)

**نہر ل حال :** اگر میت کے بیٹا، بیٹی نہ ہو ایک پوتی یا کئی پوتیاں ہوں اور ان کے ساتھ کوئی پوتا ہو تو جو کچھ ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے اس کو یہ پوتا پوتی باہم تقسیم کر لیں گے (اس جگہ پڑ پوتی قائم مقام پوتی کے نہیں ہو سکتی کیونکہ پوتے کے سامنے وہ محروم رہتی ہے)۔

**رحونہا حال :** (الف) اگر میت کے بیٹا، بیٹی نہ ہو اور کوئی پوتا بھی نہ ہو۔ ایک یا کئی پوتیاں ہوں اور پڑ پوتا ہو تب بھی ذوی الفروض کے بعد جو کچھ باقی رہے اس کو یہ پوتیاں اور پڑ پوتا باہم تقسیم کر لیں مرد کو دہرا عورت کو اکھرا (اگر صرف پڑ پوتے اور پڑ پوتیاں ہوں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی کوئی نہ ہو تب بھی ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی ماندہ کو باہم تقسیم کریں لذکر مثل حظ الانشین)۔

(ب) اگر میت کے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا موجود نہ ہو لیکن صرف ایک بیٹی موجود ہو تو پوتیوں کو صرف چھٹا حصہ ملیں گا، خواہ ایک پوتی ہو یا زیادہ۔

(ج) اگر میت کے بیٹا، پوتا سکڑ پوتا موجود نہ ہو اور پوتی بھی موجود نہ ہو بلکہ صرف ایک بیٹی اور پڑ پوتی ہو تو پڑ پوتی کو چھٹا حصہ ملیں گا خواہ ایک ہو یا چند۔

**بانحولہ حال :** اگر میت کے بیٹا، پوتا، پڑ پوتا نہ ہو دو بیٹیاں یا زیادہ ہوں تو پوتی بافل محروم رہے گی۔

**رحمہنا حال :** (الف) اگر میت کے بیٹا موجود ہے تو پوتیاں پڑ پوتیاں سکڑ پوتیاں سب محروم رہیں گی۔

(ب) اگر میت کے پوتی موجود ہے تو پڑ پوتیاں سب محروم رہیں گی۔

## ۹۔ حقیقی ہمشیرہ (سگی بہن) کی میراث:

حقیقی بہن کے پانچ حال ہیں:

**ہللا حال**: اگر میت کے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی نہ ہو اور ایک ہمشیرہ ہو تو اس کو میت کے کل ترکہ میں سے نصف ملیں گا۔

**دوسرا حال**: اگر میت کے کوئی بیٹی، پوتی، پڑپوتی نہ ہو وہ ہمشیرہ ہوں یا زیادہ تو ان کو ترکہ میں سے دو تین حصے ملے گا اس کو باہم برابر تقسیم کر لیں۔

**تیسرا حال**: اگر میت کے بیٹی، پوتی یا پڑپوتی یا سکڑپوتی موجود ہو (خواہ ایک یا زیادہ) تو اس صورت میں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے وہ میت کی ہمشیرہ کو مل جائیں گا۔

**چھوٹا حال**: اگر میت کے حقیقی بھائی (ایک یا زیادہ) موجود ہوں تو بہن ان کے ساتھ مل کر عصبه بالغیر ہو جائیں گی اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی جو کچھ رہے اس کو یہ بہن بھائی باہم تقسیم کریں ہر ایک بھائی کو دہرا بہن کو اکھر حصہ ملیں گا۔

**یا نہ چھوٹا حال**: اگر میت کے باپ دادا، پڑ دادا یا بیٹا، پوتا، پڑپوتا وغیرہ موجود ہو تو بہنوں کو کچھ حصہ نہ ملے گا بالکل محروم رہیں گی۔

## ۱۰۔ علاتی بہن کی میراث:

علاتی بہن وہ کہلاتی ہے جو باپ شریک ہو۔ حقیقی بہن موجود نہ ہو تو علاتی بہن اس کے قائم مقام ہو جائیں گی اور وہی حالات ہوں گے جو حقیقی کے بیان ہوئے لیکن یہ حقیقی

بھائی کے ساتھ عصبه نہیں ہوگی بلکہ اس کے سامنے محروم ہو جائیگی اور حقیقی بہن کے سامنے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔

### ۱۱۔ اختیافی بہن کی میراث:

اختیافی بہن وہ ہے جو ماں شریک ہو۔ اس کو میراث اس وقت مل سکتی ہے جبکہ میت کے کوئی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی موجود نہ ہو اور باپ دادا، پڑدادا بھی موجود نہ ہو اس کی وراثت کے دو حال ہیں۔

**نہ للا حال:** اگر صرف ایک اختیافی بہن ہو بھائی کوئی نہ ہو تو میت کے ترکہ کا چھٹا حصہ پائیگی۔

**دوسرا حال:** اگر اس قسم کی دو بہنیں ہوں یا ایک بہن ایک بھائی یا اس سے زیادہ ہوں تو ان سب کو میت کے ترکہ کا ایک ثلث ملیرا جس کو یہ باہم برابر تقسیم کریں گے اس صورت میں مرد عورت کے حصہ میں کمی بیشی نہیں ہوگی سب کو برابر حصہ ملیرا۔

**تیسرا حال:** اگر میت کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو یا میت کا باپ دادا کوئی بھی زندہ ہو تو اختیافی بہن محروم رہیگی۔

### ۱۲۔ جدہ، یعنی دادی اور نانی کی میراث:

میراث کی سب کتابوں میں ذوی الفروض کی تعداد بارہ لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں نانی اور دادی دونوں کے لئے ایک ہی لفظ (جدہ) مستعمل ہے جبکہ اردو میں باپ کی ماں کو دادی اور ماں کی ماں کو نانی کہتے ہیں دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ

دادی سے مزاد صرف باپ کی ماں نہیں بلکہ دادا کی ماں اور دادی کی ماں یعنی باپ کی نانی کو بھی جدہ کہتے ہیں اور یہ سب ذوی الفرض میں داخل ہیں، چار پشت تک اگر شمار کریں تو ایک شخص کی پندرہ دادیاں ہوں گی جس میں سے دس دادیاں ذوی الفرض میں شامل ہوتی ہیں، جنکو صحیحہ کہتے ہیں اور باقی پانچ فاسدہ کہلاتی ہیں جو ذوی الارحام میں سے ہیں۔ اگر قریب درجہ کی دادی موجود ہو تو بعدید درجہ کی دادی کو حصہ نہیں ملتا۔

### ذوی الفرض دادیاں - صحیحہ

پہلی پشت: باپ کی ماں ۱۔

دوسری پشت: دادا کی ماں ۲۔ دادی کی ماں ۳۔

تیسرا پشت: پڑ دادا کی ماں ۴۔ پڑ دادی کی ماں ۵۔ باپ کی نانی کی ماں ۶۔

چوتھی پشت: دادا کی دادی ۷۔ پڑ دادا کی نانی ۸۔ پڑ دادی کی نانی ۹۔ باپ کی نانی کی نانی ۱۰۔

### وراثت کا حصہ:

دادی کو میت کے ترکہ کا صرف چھٹا حصہ ملتا ہے خواہ ایک دادی ہو یا دو یا تین ہوں بشرطیکہ سب ایک ہی پشت کی ہوں ورنہ قریب کی موجودگی میں بعدید کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر ایک ہی درجہ کی چند دادیاں ہوں تو وہ اس چھٹے حصہ کو برابر تقسیم کر لیں گی۔ اگر میت کی کوئی نانی بھی اسی پشت اور درجہ کی ہو جس درجہ کی یہ دادیاں ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ اس چھٹے حصے میں شریک ہو جائیگا اور یہ چھٹا حصہ موادیوں اور نانی میں باہم تقسیم

ہو جائیگا۔ اگر نانی پچھے درجہ کی ہے تو وہ دادیوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگی۔

**دوسرا حال:** اگر میت کی ماں یا باپ موجود ہو تو تمام دادیاں بالکل محروم ہوں گی۔

**تیسرا حال:** اگر میت کی نانی قریب درجہ کی ہو دادی بعید درجہ کی تو نانی حصہ پائیگی دادی محروم رہیگی۔

**چوتھا حال:** اگر میت کا دادا موجود ہو تو بھی دادیاں محروم رہیں گی۔ لیکن باپ کی ماں اور باپ کی نانی اور باپ کی نانی کی نانی یہ چار دادیاں دادا کے سامنے محروم نہیں رہتی ان کے سواب دادیاں محروم رہیں گی۔

### نانیوں کی میراث:

جس طرح دادی سے صرف باپ کی ماں مراد نہیں تھی اس طرح نانی سے بھی صرف ماں کی ماں مراد نہیں ہے بلکہ ماں کی ماں اور نانی کی نانی بھی عربی میں جدہ کہلاتی ہیں اور ذوی الفرض میں داخل ہیں اس لئے ایک شخص کی کتنی نانیاں ہو سکتی ہیں اس طرح اگر چار پشت تک شمار کریں تو ایک شخص کی پندرہ نانیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہر نانی کو بلا تکلف میراث نہیں ملتی ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک صحیح و سری فاسدہ۔

فاسدہ نانیاں وہ ہیں جن کے رشتہ میں مرد کا واسطہ اور علاقہ آجائے (مثلاً ماں کے باپ کی ماں) فاسدہ نانیوں کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں اور یہ ذوی الفرض نہیں بلکہ ذوی الارحام ہیں۔

صحیح نانیاں وہ ہیں جن کے رشتہ میں مرد کا علاقہ درمیان میں نہ ہو، مثلاً (ماں کی ماں کی ماں) ان کو جدہ صحیح کہتے ہیں اور یہ ذوی الفرض میں داخل ہیں۔

چار پشت تک جو پندرہ نانیاں ہیں ان میں سے گیارہ فاسد ہیں اور صرف چار نانیاں صحیح ہیں جو ذوی الفروض میں شمار ہوں گی جن کی تفصیل یہ ہے۔

پشت اول: مان کی ماں (نانی ۱)

پشت دوم: نانی کی ماں (یعنی والدہ کی نانی ۲)

پشت سوم: نانی کی نانی (یعنی والدہ کی پڑنانی ۳)

پشت چہارم: نانی کی پڑنانی (یعنی والدہ کی سکڑنانی ۴)

### وراثت میں حصہ:

میت کے ترکہ کا صرف چھٹا حصہ ملتا ہے اور بلا شرکت غیر نانی اس چھٹے حصے کی مالک ہوتی ہے جبکہ کوئی دادی میت کی اس پشت کی موجود نہ ہو۔

**دوسرا حال:** اگر اسی درجہ کی میت کی کوئی دادی بھی موجود ہے جس درجہ کی یہ نانی ہے تو اس چھٹے حصے کو یہ باہم تقسیم کر لیں گی۔

**تیسرا حال:** قریب درجے کی نانی موجود ہو تو بعید درجہ کی نانی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔

### ﴿ذوی الفروض کے مقرر شدہ حصے مع تفصیل مستحقین﴾

دارثوں میں سب سے مقدم ذوی الفروض ہیں ان کے حصے شریعت میں مقرر ہیں۔ ان کے حصے دینے کے بعد جو کچھ باقی بچتا ہے وہ عصبات کو دیا جاتا ہے جب ان ہر دو قسم میں سے کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو ملتا ہے۔ ذوی الفروض کو جو حصے ملتے ہیں وہ چھ ہیں۔

۱۔ سدس یعنی چھٹا (۱) ۲۔ ثالث یعنی تہائی (۲) ۳۔ دو ثالث یعنی دو تہائی (۲)

۴۔ شمن یعنی آٹھواں (۸) ۵۔ ربع یعنی چوتھائی (۴) ۶۔ نصف یعنی آدھا (۱)

ذوی الفرض میں سے جس کے لئے جو حصہ جس حالت میں مقرر ہے وہی ملیگا اس سے کم زیاد وہیں مل سکتا۔ اس لئے ان چھ حصوں کی تفصیل درج کی جاتی ہے کہ معلوم ہو جائے کس کو کب کتنا حصہ ملے گا۔

نمبر	نام حصہ	تفصیل مستحقین حصہ مع مختصر تشریح
۱	نصف	۱۔ شوہر کو ملتا ہے۔ جبکہ مرنے والی زوجہ کے اولاد نہ ہو پانچ وارثوں کو ملتا ہے ۲۔ بیٹی کو ملتا ہے۔ جبکہ صرف ایک ہو اور بیٹا ان کے ساتھ نہ ہو ۳۔ پوتی کو ملتا ہے۔ جبکہ میت کے بیٹی، بیٹا، پوتا وغیرہ نہ ہو ۴۔ ہمسیرہ کو ملتا ہے۔ جبکہ صرف ایک ہو اور میت کے بیٹا، بیٹی اور باپ کوئی بھی نہ ہو ۵۔ علاتی ہمسیرہ کو ملتا ہے۔ جبکہ حقیقی ہمسیرہ موجود نہ ہو اور میت کے اولاد بھی نہ ہو
۲	ربع	۱۔ زوجہ مستحق ہے جبکہ شوہر کے اولاد نہ ہو دو وارث مستحق ہیں ۲۔ شوہر مستحق ہے جبکہ زوجہ کی اولاد ہو
۳	شمن	زوجہ کو ملتا ہے۔ ایک ہو یا ایک سے زائد جبکہ شوہر کے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ موجود ہو ایک وارث کا حق ہے

<p>۱ بیٹیوں کا حق ہے جبکہ دو یادو سے زیادہ ہوں بشرطیکہ بیٹیوں کے ساتھ عصبا نہ ہوں</p> <p>۲ پوتیوں کو ملتا ہے جبکہ بیٹیاں موجود نہ ہوں اور پوتا بھنی نہ ہو</p> <p>۳ حقیقی بہنوں کو ملتا ہے اگر ایک سے زائد ہوں شرطیکہ میت کے اولاد اور باپ دادا نہ ہو</p> <p>۴ علائی بہنوں کو ملتا ہے جبکہ حقیقی بہنیں نہ ہوں بشرط مذکورہ صدر</p>	<p>دو ثلث چار وارثوں کو ملتا ہے</p>	<p>۳</p>
<p>۱ ماں کا حق ہے۔ جبکہ میت کے اولاد نہ ہو اور دو بھائی بہن کسی قسم کے بھی نہ ہو</p> <p>۲ اخیانی بھائی بہن کو ملتا ہے جبکہ ایک سے زیادہ ہوں اور حقیقی بہن بھائی اور اولاد نہ ہو</p>	<p>ثلث دو وارث مستحق ہیں</p>	<p>۵</p>
<p>۱ باپ کو ملتا ہے۔ جبکہ میت کے اولاد ہو</p> <p>۲ والد کو ملتا ہے۔ جبکہ میت کے اولاد ہو یا کسی قسم کے دو بھائی بہن ہوں</p> <p>۳ اخیانی بھائی کو ملتا ہے اگر صرف ایک ہو</p> <p>۴ اخیانی بہن کو ملتا ہے۔ جبکہ صرف ایک ہو</p>	<p>سدس چار وارث پاتے ہیں</p>	<p>۶</p>

## عصبات اور ان کے حصوں کی تفصیل و تقسیم

ذوی الافروض کو اپنے مقررہ حصے دینے کے بعد میت کے مال میں سے جو کچھ نجی جائے گا وہ عصبات کو دیا جائیگا اگر ان کے مقررہ حصے دینے کے بعد کچھ نہ بچے تو عصبات کو

پچھنہیں ملے گا خواہ کسی درجہ کے ہوں۔

عصبات نسبی: یعنی میت سے علاقہ رکھنے والے وہ لوگ جن کے رشتہ میں عورت کا واسطہ اور ذریعہ نہیں اور شریعت نے ان کا حصہ مقرر نہ کیا ہو بلکہ ذوقی الفروض سے جو بچ ان کو مل جائے عصبات نسبی کہلاتے ہیں جن کو عصبہ بنفسہ بھی کہتے ہیں ان کے چار درجے ہیں اول کی موجودگی میں دوسرا درجہ اور اس کی موجودگی میں تیسرا درجہ اور تیرے کی موجودگی میں چوتھا درجہ محروم رہیگا۔

درجہ اول کے عصبات: میت کا جز یعنی اس کی نسل بیٹا، پوتا، پڑپوتا، سکڑپوتا۔

درجہ دوم کے عصبات: میت کے اصل جیسے باپ، دادا، پڑدا، سکڑدا۔

درجہ سوم کے عصبات: باپ کا جز یعنی باپ کی نسل۔ بھائی، بھتیجہ، بھتیجہ کا بیٹا، بھتیجہ کا پوتا وغیرہ۔

درجہ چہارم کے عصبات: دادا کا جز یعنی دادا کی نسل اور پھر ان کی اولاد دراولاد جیسے پچا، پچا کا بیٹا، پچا کا پوتا، پچا کا پڑپوتا وغیرہ۔

فائزہ: جیسے درجہ اول کی موجودگی میں درجہ دوم کے عصبات محروم رہتے ہیں اسی طرح ہر درجہ کے ورثاء میں بھی فرق ہے جو سب سے قریب ہوگا وہی حقدار ہوگا۔ اور اس کے بعد والا محروم رہیگا۔ جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہوگا، علی ہذا القیاس ہر درجہ کو سمجھیں۔ البتہ اگر سب وارث برابر درجہ کے ہوں تو وہ وارثت کو باہم تقسیم کر لیں گے مثلاً چار بیٹے ہوں تو وہی برابر تقسیم کر لیں گے یا چار پوتے ہوں تو وہی وارثت کو

برابر تقسیم کر لیں گے۔ ان کے علاوہ عصبہ کی دو قسمیں اور ہیں (۱) عصبہ بغیرہ (۲) عصبہ مع غیرہ بیٹیاں، بیٹوں کے ساتھ مل کر عصبہ بغیرہ بن جاتی ہیں۔ اور ہن بھانیوں کے ساتھ مل کر عصبہ مع غیرہ بن جاتی ہیں۔

عصبہ کا حصہ: سب سے مقدم اور سب سے بڑا عصبہ بیٹا ہے شریعت میں اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ذوی الفرض کو دینے کے بعد جو بچے وہ سب اس کو مل جائے گا۔ اگر کئی بیٹے ہوں باہم برابر تقسیم کریں گے۔ اگر بیٹی بھی ہو تو وہ بھائی کے ساتھ ملکر عصبہ بالغیر بن جائیں گی۔ اور اس کو بیٹے سے آدھا ملے گا۔ باقی سب درجات اس کی موجودگی میں محروم ہوں گے۔

### تنبیہات:

(۱) میت کے بیٹا نہ ہو تو پوتے کا حال بیٹے کا سا ہے مگر دو باتوں میں فرق ہے بیٹے کے ساتھ بیٹیاں ہوں تو عصبہ بن جاتی ہیں لیکن پوتے کے سامنے میت کی بیٹیاں عصبہ نہیں بنتیں بلکہ ذوی الفرض ہی رہتی ہے اگر ایک بیٹی ہو تو نصف ملے گا ایک سے زائد ہوں تو دو تھائی۔

(۲) بیٹے کی موجودگی میں پوتیاں محروم تھیں پوتے کے سامنے نہیں بلکہ پوتے کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہیں اور اس سے آدھا حصہ پاتی ہیں۔

مزید تفصیل کتاب ”مفید الوارثین“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ مفتی صاحب نے پونتہ یہ مختصر قواعد تحریر کئے ہیں جن کی ضرورت روزمرہ پیش آتی ہیں۔ ان کے لئے عصبات کی اتنی تفصیل سمجھ لینا ہی کافی ہے۔ ان چاروں درجات کے عصبات کی کل تعداد ۳۲ ہے۔

جن میں ۲ درجہ اول کے ۴ درجہ دوم کے ۸ درجہ سوم کے اور ۶ درجہ چہارم کے ہیں۔

## ذوی الارحام اور ان کے حصوں کی تقسیم

ذوی الارحام وہ وارث ہیں جن کا حصہ بھی شریعت میں مقرر نہ ہوا اور عصیہ بھی نہ ہوں بلکہ میت میں اور ان میں عورت کے علاقہ اور رشتہ سے قرابت ہو یا وہ خود عورت ہوں۔ چنانچہ خالہ ذوی الارحام ہے کیونکہ ماں کی بہن ہے اور پھوپی بھی ذوی الارحام ہے کیونکہ خود مرد نہیں اگرچہ واسطہ مرد کا ہے کہ باپ کی بہن ہے۔ پوتی اگرچہ مرد نہیں لیکن اس کو ذوی الارحام نہیں کہیں گے اس لئے کہ اس کا حصہ شریعت میں مقرر ہے۔ وغیرہ جب تک ذوی الفرض اور عصبات میں سے کوئی بھی موجود ہوگا ذوی الارحام کو حصہ نہیں ملیگا۔ البتہ ذوی الفرض میں سے شوہر اور زوجہ دو ایسے ذوی الفرض ہیں کہ ان کی موجودگی میں اگر ذوی الفرض اور عصبات میں سے کوئی اور نہ ہو تو ان دونوں میں سے جو موجود ہو اس کا حصہ نکال کر بقیہ ذوی الارحام میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ان پر نہ رد نہیں ہوتا۔

ذوی الارحام کے بھی چار درجے ہیں۔ جب تک اول درجہ والے ہوں گے دوم درجہ کو میراث نہیں ملے گی اسی طرح دوم کی موجودگی میں سوم اور سوم کی موجودگی میں چہارم محروم رہیگا۔ نیزان درجات میں بھی جو سب سے قریب ہو گا وہ مستحق ہوگا دوسرا محروم۔ جو ذوی الارحام ایسے شخص کی اولاد ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور وارث ہوتا ایسے ذوی الارحام اس شخص کی اولاد پر مقدار پہنچے جو اگر خود بھی زندہ ہوتا تو اس کو میراث نہ ملتی۔

## درجات ذوی الارحام:

**یہ لاد رجہ:** خود میت کی وہ اولاد جزوی الفرض اور عصبات میں داخل نہیں جیسے۔  
نواسہ، نواسی وغیرہ۔

**دوسرا درجہ:** میت کے اصول جزوی الفرض اور عصبات نہیں۔ جیسے نانا یا  
دادی کا باپ وغیرہ۔

**پیسرا درجہ:** میت کے ماں باپ کی اولاً جزوی الفرض و عصبة نہیں جیسے بھانجا،  
بھانجی، بھتیجی۔

**چوتھا درجہ:** دادا اور دادی اور نانی کی اولاد جیسے، پھوپی، خالہ، ماموں، اختیافی پچا وغیرہ۔  
فاسعدہ (والد): بیٹے کا پوتا پڑپوتا سکر پوتا سب عصبات ہیں۔

فاسعدہ (وی): بیٹی کی تمام اولاد ذوی الارحام ہیں مذکر ہو یا مؤنث۔

فاسعدہ (سو): پوتی کی تمام اولاد ذوی الارحام ہے مذکر ہو یا مؤنث۔

فاسعدہ (رحمہاں): پڑپوتی کی اولاد سب ذوی الارحام ہیں مذکر ہو یا مؤنث۔

## ذوی الارحام کا حصہ:

نواسہ، نواسی کا ذوی الارحام میں اول درجہ ہے یہ سب سے مقدم ہیں ان کے سامنے  
اور کوئی ذوی الارحام وارث نہیں ہوتا، جب ذوی الفرض اور عصبات میں سے کوئی نہ  
ہو تو یہ وارث ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے صرف ایک شخص موجود ہو تو کل مال وہی  
لے لے گا اور اگر دو چار ہوں تو باہم برابر تقسیم کر لیں گے مرد کو دھر اور عورت کو اکھر ا حصہ

ملے گا۔ جیسا کہ عصبات میں ہوتا ہے۔ ذوی الارحام میں حصہ کی تقسیم کی ضرورت کم پیش آتی ہے اس لئے کہ عموماً ورثاء میں ذوی الفرض یا عصبة میں سے کوئی ناکوئی تو موجود ہوتا ہی ہے۔ چونکہ ورثاء کی تین قسموں میں ذوی الارحام کا بھی ذکر تھا اس لئے ان کی مختصری تعریف اور تقسیم بتادی گئی ہے۔ تاکہ مسائل میراث کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے۔ اگر تفصیلاً ہر ایک کا حصہ معلوم کرنا چاہئیں تو کتاب ”مفید الوارثین“ کا مطالعہ فرمائیں۔

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس سرہ نے ورثاء کے حصہ معلوم کرنے کے جو عام فہم اور آسان قاعدے قلم بند فرمائے اور مثالوں سے ان کی وضاحت کی ہے اب وہ ذکر کئے جاتے ہیں یہ ایسے اصول ہیں کہ اگر یاد کر لئے جائیں تو ان کی مدد سے ورثاء کے حصے بآسانی معلوم کئے جاسکتے ہیں مفتی صاحب نے جو اصول وضع کئے ہیں میں نے ان کو قاعدہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے پھر مفتی صاحب کی ذکر کردہ مثال بیان کی ہے اور وضاحت کے عنوان سے مفتی صاحب کے ذکر کردہ قاعدے کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وضاحت کے بعد کوئی مثال بیان کی ہے تو وہ میری بیان کردہ ہے مفتی صاحب کی نہیں۔ اکثر مقامات پر (۱۲) علامت بھی لکھدی ہے تاکہ فرق واضح رہے اگر کسی جگہ غلطی ہو تو اس کو میری طرف منسوب کریں مفتی صاحب کی طرف نہیں کہ مجھ سے نقل میں غلطی ہوئی ہوگی جس کا قوی امکان ہے۔ اور مجھ سے مطلع فرمائیں تو آئندہ تصحیح کر لی جائے گی اور میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔

(فقط خلیل احمد تھانوی)

## القواعد الاخصرية للفرائض الاكثرية

قواعد نمبرا: اگر مرد کی وفات ہو اور بیوی بچے ہی وارث ہوں (مثلاً ایک لڑکا اور ایک لڑکی) تو چونکہ ہر لڑکے کے دو ہر لڑکی کا ایک سہام ہے مجموعہ تین بناتے ہے۔ اولاد ہونے کے وقت چونکہ بیوی کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے اس لئے اس مجموعہ کو آٹھ سے ضرب دیجئے۔

جتنا مجموعہ ان سہاموں کا ضرب سے پہلے ہوگا (یعنی تین) وہ بیوی کا حصہ ہے اور جس عدد سے ضرب دی جائے (یعنی آٹھ) اس سے ایک عدد کم ہر لڑکی کا حصہ ہے (یعنی سات) اور اس سے دو گنا (یعنی چودہ) ہر لڑکے کا ہوگا۔ چاہے جتنے لڑکے ہوں اور جتنی لڑکیاں ہوں سب کا اسی طرح ہوگا۔

مثال: (۱)

اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے ورثہ میں صرف دو بیٹے ایک بیٹی اور ایک بیوہ ہے تو (قواعد مذکور کی بنابر) تقسیم وراثت اس طرح ہے۔

زید				$\frac{۲۰}{۸}$
بیٹی	بیٹیا	بیٹیا	زوجہ	
۷	۱۲	۱۲	۵	

طریقہ تقسیم:

(اس مثال میں) ہر بیٹے کے دو بیٹی کا ایک سہام: کل پانچ ہوئے، پانچ کو آٹھ (بیوی کے حصہ کے موافق) سے ضرب دیا تو چالیس سہام ہو گئے۔ اصل مسئلہ چالیس ہوا، وہ

خط (علامت میت) کے اوپر لکھ دیجئے۔

جتنے سہام بیٹیوں کے کل تھے یعنی پانچ وہ بیوی کا  $\frac{1}{8}$  ہوا اس کے نام کے نیچے لکھ دیجئے۔ اور جتنے سے ضرب دیا تھا یعنی آٹھ (بیوی کے حصہ کے موافق) اس میں ایک کم کیجئے تو سات باقی نیچے توہر بیٹی کا حصہ سات سہام ہونگے۔ بیٹی کے حصہ میں سات لکھ دیجئے۔ اس کا دو گنا یعنی چودہ ہر بیٹی کے نیچے لکھ دیجئے۔ اب دیکھئے کہ ان سہاموں کا مجموعہ اوپر والے سہاموں کے موافق ہے تو حساب صحیح ہے چنانچہ یہاں چالیس ہی بن رہا ہے اس طرح جتنے بھی بیٹیوں ہوں ان کے چودہ چودہ اور سات سات ہی نکلیں گے۔ اور اصل مسئلہ (۲۰ سے) آٹھواں  $\frac{1}{8}$  بیوی کا نکال کر جس سے ضرب دی ہے یعنی آٹھ سے ایک کم کر کے سات سہام لڑکی کے اور اس کا دو گنا یعنی چودہ چودہ ہر لڑکے کے ہونگے کل پھر چالیس ہیں۔

**وضاحت:** قرآنِ کریم کے مطابق بیان کردہ حصوں میں شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے اور ہر لڑکے کا لڑکی کے حصے سے دو گنا ہوتا ہے۔ اس لئے مفتی صاحب<sup>ؒ</sup> نے اس قاعدے میں یہ وضاحت کی ہے کہ جتنے لڑکے ہوں لڑکیوں کے مقابلہ میں ان کا حصہ ڈبل کر لیا جائے اور ان کے مجموعے کو بیوی کے حصے سے ضرب دیجائے پھر جو مجموعہ حاصل ہو۔ اس میں سے بیٹیوں کا جو مجموعہ حصہ تھا وہ بیوی کا ہو گا مثال مذکور میں ۲۰ میں سے پانچ بیوی کے ہونگے اور بیوی کا آٹھواں حصہ تھا تو اس سے ایک کم کر کے سات حصے یہ بیٹی کے ہوں گے اور اس کا دو گنا یعنی چودہ بیٹی کے ہوں گے مثال مذکور میں چونکہ ایک بیٹی ہے اس لئے اس کے سات اور

دو بیٹے ہیں ان کے چودہ چودہ ہوئے۔ ۱۲ (خ)

دوسری مثال:

اگر میت ورثاء میں پانچ بیٹیاں اور ایک بیوی چھوڑے تو تقسیم مذکورہ قاعدے کے مطابق حسب ذیل ہوگی۔ (۱۲ خ)

زید

$\frac{120}{8}$

بیوی	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹی
۱۵	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۷	۷	۷	۷
$= 120$								

طریقہ تقسیم:

پانچ بیٹوں کے دس سہام پانچ بیٹیوں کے پانچ کل پندرہ سہام ہوئے بیوی کا آٹھواں حصہ ہے اس لئے ان پندرہ کو آٹھ سے ضرب دیں تو کل ایک سو بیس سہام ہوئے اولاد کے سہاموں کا مجموعہ تھا پندرہ۔ جو ایک سو بیس کا آٹھواں حصہ ہے وہ بیوی کا ہوگا اس کے نام کے نیچے لکھ دیجئے اور یہ آٹھواں حصہ نکال کر باقی میں آٹھ کے عدے سے ایک کم کر کے یعنی سات سات ہر بیٹی کے اور اس سے دو گنا یعنی چودہ چودہ ہر بیٹے کے ہوں گے اور سارا اصل مسئلہ کے برابر ہو کر صحیح ہوگی سب کا مجموعہ وہی اصل مسئلہ ایک سو بیس ۱۲۰ ہے۔

وضاحت: چونکہ شرعی قاعدہ کے مطابق اس صورت میں بیوی کا آٹھواں حصہ ہے مذکورہ مثال میں ۱۲۰ کا آٹھواں ۱۵ ہے جو بیوی کا حصہ ہے۔ اور سات سات بیٹیوں کے جن کا مجموعہ ۳۵ ہے اور بیٹیوں کے حصے سے دو گنا بیٹیوں کا جس کا مجموعہ ۷۰ ہے بنتا ہے۔

کل =  $15 + 35 + 70 = 120$  (۱۲ خ)

## تیری مثال:

اگر بیت ورثاء میں ایک بیٹا پانچ بیٹیاں ایک بیوی چھوڑے تو تقسیم حسب ذیل طریقہ پڑھوگی۔ (۱۲ ان)

زید

$\frac{56}{8}$

بیوی	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹا
۵۶=۱۲	۷	۷	۷	۷	۷

بیٹے کے دو پانچ بیٹوں کے پانچ کل سات سہام ہوئے۔

بیوی کا آٹھواں حصہ  $\frac{1}{8}$  توجہ مجموعہ سات کو آٹھ میں ضرب دیا تو کل چھپن سہام ہو گئے اور اولاد کے سہاموں کا مجموعہ سات ہے جو چھپن کا آٹھواں حصہ ہے اس لئے بیوی کے نام کے نیچے سات لکھ دیجئے اور ضرب ۸ سے دی تھی اس سے ایک عدد کم کر کے سات پھاتو سات سات ہر بیٹی کے اور اس کا دو گنا یعنی چودہ بیٹے کا ہو گا سب کا مجموعہ چھپن ہے۔

وضاحت: پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا تو قاعدہ مذکورہ کے مطابق ان کا مجموعہ سات بنتا ہے جس کو آٹھ سے ضرب دیا تو مجموعہ ۵۶ ہوا بیوی کا آٹھواں حصہ جو مجموعہ کے برابر ہے یعنی سات وہ دیا بیٹیوں کو ضرب دینے والے عدد ۸ سے ایک کم کر کے سات سات دینے بیٹے کو ان کے حصہ کا دو گنا دیا تقسیم اس طرح ہو گئی۔

بیوی      بیٹا      بیٹی      بیٹی      بیٹی      بیٹی

۷      ۷      ۷      ۷      ۷      ۱۲      ۷

(۱۲ ان)

چوتھی مثال:

اگر میٹ نے ورثاء میں صرف ایک بیٹا ایک بیٹی اور ایک بیوہ چھوڑی ہے تو تقسیم حسب ذیل ہوگی (۱۲خ)

زید				۲۳
				<u>۸</u>
	بیٹی	بیٹا	بیوی	

$$23 = 7 \quad 12$$

ایک بیٹے کے دو اور ایک بیٹی کا ایک کل ۳ ہوئے بیوی کا  $\frac{1}{8}$  کی وجہ سے آٹھ سے ضرب دی تو کل سہام ۲۳ ہوئے اولاد کے حصوں کے برابر ۳ جو آٹھواں حصہ ہوگا چوبیس کا وہ بیوی کے نام پر لکھئے اور آٹھ جس سے ضرب دی تھی اس سے ایک کم کر کے سات بیٹی کے نام پر اور اس سے دو گنا چودہ بیٹے کے نام پر مجموعہ چوبیس ۱۲۳ اصل مجموعہ کے برابر ہو کر صحیح ہوگا۔

وضاحت: ورثاء میں ایک بیٹا ایک بیٹی تھی قاعدے کے مطابق بیٹی کا ایک بیٹے کے دو بیوی کا آٹھواں بیٹی، بیٹے کے سہام کا مجموعہ تین تھا جو بیوی کا ہوا بیٹے کے چودہ بیٹی کے سات تقسیم اس طرح ہے۔

بیٹی	بیٹا	بیوی
$23 = 7$	۱۲	۳

وجہ یہ ہے کہ جب ۲۳ میں سے آٹھواں حصہ نکال لیا تو باقی ۲۱ بچے۔ لذذ کر مثل حظ الانشین کی رو سے بیٹی کے سات اور بیٹے کے اس کا دو گنا یعنی ۱۲ ہے۔

(۱۲خ)

## قاعدہ نمبر ۲:

جب بیوی کا انتقال ہوا اور ورثہ میں شوہر اور اولاد زندہ ہو تو اس وقت بھی ہر لڑکے کے دو سہام اور لڑکی کا ایک سہام کے حساب سے مجموعہ بنائے۔ اور اس مجموعہ کو خاوند کے حصہ میں جو کہ اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی ہوتا ہے اس کی مناسبت سے چار ضرب دیں مجموعہ اصل مسئلہ ہو گا اولاد کے سہاموں کا جو مجموعہ ہے وہ اصل مجموعہ کا ۱/۴ ہے اور یہی خاوند کا حصہ ہے اس کو خاوند کے نام کے نیچے لکھ دیجئے۔

۱/۴ کی مناسبت سے جو چار ۳ نکالے تھے ان میں سے ایک کم کر کے تین ۳ ہر بیٹی کے اور اس کا دو گنا یعنی چھ ۶ ہر بیٹی کا ہو گا۔ جتنی چاہے مثالیں بنائیجئے یہی حاصل ہو گا یعنی ہر دفعہ اولاد چھ اور تین ہو گی۔

مثال:

زید

$\frac{16}{8}$

بیٹیا

بیٹی

خاوند

$16 = 3$

۶

۳

وضاحت: اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو تو شرعی طور پر چونکہ خاوند کا ترکہ میں حصہ ایک چوتھائی ہے۔ اس کے اولاد کے حصہ دو گنا ہوتا ہے اس لئے ہر لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصہ شمار کر کے مجموعہ حصہ کو چار میں ضرب دیں گے۔ کیونکہ شوہر کا چوتھائی ہے۔ اور مجموعہ حصہ کا جو عدد ہو گا وہ شوہر کے حصے ہونگے اس لئے کہ یہی اصل میں مجموعہ کا چوتھائی ہے۔ پھر جیسے بیوی کے آٹھویں حصہ میں سے

ایک کم کر کے بیٹی کا حصہ سات شمار ہوا تھا اسی طرح یہاں شوہر کے چوتھے حصے چار میں سے ایک کم کر کے تین تین بیٹی کے اور اس کا دو گنا یعنی چھ چھ بیٹے کے ہونگے چاہے جتنے لڑکے ہوں اور چاہے جتنی لڑکیاں ہوں۔ جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے۔ (۱۲خ)

دوسری مثال : اگر کسی کے پانچ بیٹیاں ہوں تو یہوی کے انتقال کی صورت میں اس کے ترکہ کی تقسیم اگر کوئی اور وارث نہ ہو اس طرح ہوگی۔ (۱۲خ)

ضدہ

۶۰

---

۳

خاوند	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹی	بیٹی	بیٹی
	۶۰	۶	۶	۳	۳	۳	۳
	۱۵						

اولاد کے سہام پندرہ ہوئے خاوند  $\frac{1}{4}$  کی نسبت سے اسے چار سے ضرب دیں گے تو ساٹھ ہوں گے۔ یہ اصل مسئلہ ہے اور اولاد کے سہام کا مجموعہ ۱۵ تھا وہ اصل مسئلہ ساٹھ ۶۰ کا  $\frac{1}{4}$  ہے وہ خاوند کے نام کے نیچے لکھے اور  $\frac{1}{4}$  کی نسبت سے جو چار سے ضرب دیا تھا اس سے ایک کم کر کے تین تین تو ہر لڑکی کا ہوا اور دو گنا چھ چھ ہر لڑکے کا مجموعہ ساٹھ ہے۔

تیسرا مثال : اگر ایک بیٹا پانچ بیٹیاں اور شوہر وارث ہو تو تقسیم یوں ہوگی۔ (۱۲خ)

ضدہ

۲۸

---

۳

خاوند	بیٹا	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹی
	۷	۶	۳	۳	۳	۳
	۲۸					

اولاد کے سہام سات ہوئے سات کو چار سے ضرب دیں تو اٹھائیں ہوئے اور چار

ضرب والے سے ایک کم کریں تو تین باقی بچے ہر بیٹی کو تین اور ہر بیٹے کو اس کا دو گنا یعنی چھ دیدیں۔

**چوتھی مثال:** اگر ایک بیٹا ایک بیٹی اور خاوند وارث ہوں تو تقسیم یوں ہو گی۔ (۱۲x)

ہندہ

$\frac{12}{3}$

بیٹی	بیٹا	خاوند
۳	۶	۳

اولاد کے سہام کا مجموعہ ۳ ہے خاوند کے  $\frac{1}{4}$  کی مناسبت سے چار سے ضرب دیں تو بارہ ہو گئے یہ اصل مسئلہ ہے اور چار ضرب والے سے ایک کم کر کے تین رہے وہ بیٹی کا اور اس کا دو گنا یعنی چھ وہ بیٹے کا (اولاد کے سہام کا مجموعہ ۳ تھا وہ شوہر کا) کل ۱۲ سہام

**قاعدہ نمبر ۳:** مرد فوت ہوا صرف بیوی ہے اولاد نہیں ہے (مرد کے بہن بھائی ہیں) دو بھائی ایک بہن جن کے سہاموں کا مجموعہ پانچ مرد کے رنگ کی اصل چار سے ضرب دیں تو بیس ہونے جو اصل مسئلہ ہو گا۔ اب چار سے ایک کم کریں تین بچے یہ بہن کا اور اس کا دو گنا یعنی چھ بھائیوں کا ہو گا بھائی بہنوں کے مجموعہ حصہ پانچ بنتے تھے وہ بیوی کا ہو گا۔

زید

$\frac{20}{3}$

بیوی	بھائی	بھائی	بھائی	بہن
۵	۶	۶	۳	۲۰ =

**وضاحت:** شوہر اگر فوت ہوا اور لاولد ہو تو بیوی کا حصہ چوتھائی ہوتا ہے اور اولاد میں لڑکوں کا لڑکیوں سے دو گنا ہوتا ہے اولاد تو ہے نہیں اسی اعتبار سے بھائیوں کو بہنوں سے دو گنا ملیں گا۔ چنانچہ مذکورہ صورت میں ایک بہن کا ایک حصہ اور دو بھائیوں کے چار حصے کل پانچ ہوئے ان پانچ کو چار سے ضرب دیکر ۲۰ سہماں بنائے۔ جن میں سے پانچ بیوی کے ہوئے اور چھ چھ بھائیوں کے تین بہن کے کل ۲۰ ہو گئے۔ (۱۲خ)

**دوسری مثال:** زید کا انتقال ہوا اس کے ورثہ میں پانچ بھائی پانچ بہن ایک بیوہ ہے تقسیم وارثت اس طرح ہے (۱۲خ)

زید

 $\frac{20}{3}$ 

بیوی	بھائی	بھائی	بھائی	بہن	بہن	بہن	بہن
۱۵	۶	۶	۶	۳	۳	۳	۳

بہن بھائی کا مجموعہ پندرہ (جو کل کارربع ہے بیوی کا ہے) کو رباع کے عدد چار سے ضرب دیکر ساٹھ اصل مسئلہ ہوا۔ چار سے ایک کم کر کے تین تین ہر بہن کا اور اس کا دو گنا چھ چھ ہر بھائی کا ہو گا۔

**وضاحت:** پانچ بھائی اور پانچ بہن ہونے کی صورت میں بھائیوں کا دو گنا ہونے کی وجہ سے کل ۱۵ حصے بنتے ہیں جن کو ۳ میں ضرب دینے سے ۲۰ حصے ہوئے ساٹھ کا چوتھائی پندرہ ہوتا ہے وہ بیوی کے ہوئے ۳ کے عدد میں ایک کم کیا تو تین کے حساب سے پانچ بہنوں کے پندرہ ہوئے۔ اور چھ کے حساب سے پانچ بھائیوں کے تیس ہوئے اس طرح مجموعہ ساٹھ ہو گئے۔ (۱۲خ)

تیسرا مثال: زید کا انتقال ہوا اور شہ میں ایک بیوہ ایک بھائی پانچ بہن اولاد نہیں  
ہے تو وارثت اس طرح تقسیم ہوگی۔ (۱۲خ)

زید

 $\frac{28}{2}$ 

	بیوی	بھائی	بہن	بہن	بہن	بہن
	۷	۶	۳	۳	۳	$= 28$

بہن بھائی کا مجموعہ سہام سات اس کو ربع کے چار سے ضرب دیکر ۱۲۸ اصل مسئلہ ہوا چار سے ایک کم کر کے تین تین ہر بہن کو ۲ بھائی کو اور بہن بھائی کے مجموعہ سہام کے عدد کے مطابق سات بیوی کو۔

وضاحت: بہن بھائیوں کا مجموعہ سات بنتا ہے اس لئے کہ پانچ بہنیں ان کے پانچ حصے اور ایک بھائی اس کے دو حصے کل سات ہوئے اس کو چار سے ضرب دیا کل اٹھائیں ہوئے بیوی کو سات حصے دئے بھائی کو چھو اور بہنوں کو تین تین کل پندرہ سب کا مجموعہ ۲۸ ہو گیا۔

چوتھی مثال: زید کا انتقال ہوا جو لاولد تھا اس کے ورثہ میں ایک بھائی ایک بہن ایک بیوہ ہے، تقسیم وراثت اس طرح ہے (۱۲خ)

زید

 $\frac{12}{2}$ 

	بیوی	بھائی	بہن
	۳	۶	۳

بھائی بہن کے سہام کا مجموعہ تین بیوی کے ربع کے عدد چار سے ضرب دیا تو بارہ اصل مسئلہ ہوا۔ مجموعہ جو تین تھا وہ بیوی کا ہوا چار سے ایک کم کر کے تین بہن کا اور اس کا دو گنا چھ بھائی کا۔

**وضاحت:** بہن کا ایک حصہ ہوگا تو بھائی کے دو ہونگے۔ دونوں کا مجموعہ تین ہو گیا تین کو چار میں ضرب دیا کل بارہ سہام ہوئے۔ بیوی کو تین دے جو کل کی چوتھائی ہے بہن کو تین بھائی کو چھ مجموعہ بارہ ہو گئے۔ (۱۲خ)

**قاعدہ نمبر ۲:** اگر عورت لاولد ہو تو اس کے ترکے میں شوہر کا نصف ہوتا ہے اب اگر اس کے بھائی ہیں تو ان کے حصہ معلوم کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ شوہر کا حصہ  $\frac{1}{2}$  ہے تو اسکی بہن کا ایک اور بھائی کا اس کا دو گنا ہوگا۔ اس حساب سے ان کے سہام بنائے جائیں اور پھر ان کو دو ۲ سے ضرب دیجئے۔ مجموعہ سہام کا جو عدد ہو گا اتنے سہام شوہر کے ہوں گے۔ اور باقی میں ہر بہن کا ایک ایک اور ہر بھائی کے دو دو سہام ہوں گے جتنے بھی ہوں۔ مفتی صاحب نے اس کو مثال سے واضح کیا ہے۔ (۱۲خ)

**مثال:** بیوی فوت ہوئی لاولد

ھندہ

$\frac{1}{2}$

خاوند	بھائی	بھائی	بھائی
۵	۲	۲	۱

$1 \times 2 \times 2 = 4$

بھائی بہن کے سہام کا مجموعہ پانچ خاوند لاولد کے لئے نصف  $\frac{1}{2}$  دو سے ضرب دیکر دس اصل مسئلہ ہے ہے خاوند کے پانچ بہن کا ایک بھائیوں کے دو دو کل دس ہوئے۔

دوسری مثال: جب بیوی لاولد فوت ہو جائے اس کے ورثہ میں شوہر اور پانچ بھائی پانچ بہنیں ہوں تو ہر بہن کا ایک حصہ اور بھائی کا اسکا دو گنا یعنی دو حصے تو یہ کل پندرہ حصے ہوئے ان کو دو میں ضرب دیکر تیس سہام بنائے جائیں۔ بہن بھائی کے مجموعہ حصہ یعنی پندرہ شوہر کے ہوں گے۔ ہر بھائی کے دو ہر بہن کا ایک ہوگا۔ (۱۲خ)

ہندہ

---

۳۰

۳

خاوند	بھائی	بھائی	بھائی	بہن	بہن	بہن	بہن
۱۵	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱
<hr/>							
۳۰=							

تیسرا مثال: جب بیوی لاولد فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ میں خاوند ایک بھائی اور پانچ بہنیں ہوں تو بہن کا ایک حصہ اور بھائی کے دو حصے کے اعتبار سے پانچ بہنوں کے پانچ اور دو بھائی کے کل سات حصے ہوئے جن کو دو میں ضرب دیں گے کیونکہ بیوی کے لاولد ہونے کی صورت میں شوہر کا نصف ہوتا ہے اس لئے کل سہام چودہ ہو گئے بہن بھائیوں کے سہام کا مجموعہ سات تھا وہ شوہر کے ہوئے بھائی کے دو اور بہنوں کا ایک ایک ہوگا۔ (۱۲خ)

ہندہ

---

۱۳

۲

خاوند	بھائی	بھائی	بہن	بہن	بہن	بہن	بہن
۷	۲	۱	۱	۱	۱	۱	<hr/> ۱۳=

چوتھی مثال: جب عورت لاولد انتقال کر جائے اور اس کے ورثہ میں خاوند اور ایک

بھائی ایک بہن ہو۔ تو بہن بھائی کے مجموعہ حصص کا عدد ۳ ہے شوہر کا حصہ چونکہ  $\frac{1}{3}$  ہے اس لئے دو سے ضرب دیکر کل حصے چھ بن جائیں گے بہن بھائی کے مجموعہ کا عدد ۶ ہے اس لئے یہ تین تو شوہر کے ہوں گے۔ اور بھائی کے دو بہن کا ایک ہو گا۔

ہندہ

$\frac{6}{2}$

خاوند	بھائی	بہن	$= 1$	۲	۳

قاعدہ نمبر ۵: اگر ذوی الفرض میں سے ایک ہو۔

اگر میت کے ایک ذوی الفرض ہو اور اس کے اولاد لڑکے لاٹکیاں ہوں یا صرف ایک بیٹی اور کئی بہن بھائی، یا اولاد نہیں صرف بھائی ہوں ان کے مجموعی عدد (دو ولڈکوں کے ایک ایک لڑکی کا) جمع کر کے اس کو جبکہ فقط ایک ہی ذوی الفرض ہو اس کے سہام کے اصلی عدد میں ضرب دیکر مجموعہ کو اصل مسئلہ بنائیں گے۔ اور جتنے کو ضرب دیا ہے یعنی مجموعہ افراد اس کو ذوی الفرض کا سہام بنائیں گے۔ اور اس کے اصل عدد سے ایک کم کر کے ہر ہر لڑکی کا سہام اور دو گناہر ہر لڑکے کا سہام ہو گا مجموعہ اصل مسئلہ کے برابر ہو کر صحیح ہو گا۔ یہی ایک طریقہ سب میں کافی ہے۔

پہلی مثال:

زوجہ	$\frac{30}{8}$
زید مع اولاد	

زوجہ	$\frac{30}{8}$
بیٹیا	۱۳

اولاد کا مجموعہ سہام پانچ ہوئے زوجہ ذوی الفرض میں ہے تین (۱) اس کا حصہ تھا۔ اس کے اصل وصل عدد جو ۸ ہے سے ضرب دیکر چالیس اصل مسئلہ بنایا۔ مجموعہ اولاد کو ذوی الفرض کے اصل عدد ۸ میں ایک کم کر کے سات ہر ہر لڑکی کا اور دو گناہ چودہ ہر ہر لڑکے کا ہوگا  
وضاحت: زید کے فوت ہونے کی صورت میں جبکہ اس کے بیٹی ایک ہے اس کا ایک حصہ اور دو بیٹوں کے چار حصے اس طرح کل حصہ پانچ ہوئے۔ بیوی کا آٹھواں حصہ ہے اس سے ضرب دیکر چالیس بنائے۔ مجموعہ اولاد کے حصوں کا عدد پانچ ہے وہ بیوی کا ہے جو چالیس کا آٹھواں حصہ ہے۔ بیٹی کو سات ملینگے اور بیٹوں کو اس کا ڈبل چودہ چودہ مجموعہ سب کا ۲۰ ہوگا۔ (۱۲)

### دوسری مثال:

ہندہ مع اولاد

۲۰

۳

خاوند	بیٹا	بیٹا	بیٹی
۲۰ =	۶	۳	۵

اولاد کا مجموعہ سہام پانچ ہے خاوند کا ربع (۱) تھا مجموعہ اولاد کے پانچ کو ذوی الفرض کا حصہ بنایا پھر ذوی الفرض کے اصل عدد چار سے ایک کم کر کے تین بیٹی کے اور اس کا دو گناہ چھ چھ ہر ہر بیٹی کے۔

وضاحت: ہندہ کے فوت ہونے کی صورت میں جبکہ اس کے ورثاء میں بیٹے بیٹی اور شوہر ہو تو تقسیم اس طرح ہوگی کہ اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کا حصہ (۱) ہوتا ہے اس لئے لڑکی کا ایک اور دو لڑکوں کے چار حصے ہوئے جن کا مجموعہ پانچ ہے جس کو شوہر کے حصہ چار میں ضرب دیکر بیس اصل مسئلہ بنایا اولاد کا مجموعہ پانچ تھا وہ شوہر کا

ہوا جو بیس کا چوتھا حصہ ہے اور بیٹی کے تین جو شوہر کے حصہ عدد سے ایک کم ہے۔ اور بیٹوں کا اس کا دو گنا یعنی چھ چھ ہو گیا۔ سب کا مجموعہ بیس ہو کر تقسیم صحیح ہوئی۔ (۱۲خ)

### تیسرا مثال:

زید لاولد

۲۰

$\frac{2}{3}$

بہن

بھائی

بھائی

زوجہ

$20 = 3$

۶

۶

۵

زوجہ کا ( $\frac{1}{3}$ ) سے مجموعہ سہامات افراد پانچ ضرب دیکر بیس کو اصل مسئلہ بنایا، پانچ مجموعہ افراد زوجہ کا حصہ قرار دیا پھر چار سے ایک کم تین بہن کا حصہ اور اس کا دو گنا چھ چھ بھائیوں کا۔

وضاحت: زید کا انتقال ہوا جو کہ لاولد تھا اس صورت میں اس کی بیوی کا حصہ چوتھا ہوتا ہے۔ ورشہ میں ایک بیوہ دو بھائی ایک بہن ہے۔ دو بھائیوں کے چار حصے اور ایک بہن کا مجموعہ پانچ ہوئے جن کو زوجہ کے حصہ چار میں ضرب دیکر بیس اصل مسئلہ بنایا۔ بیوہ کو پانچ دئے جو بیس کا چوتھائی ہے۔ بہن کو چار میں سے ایک کم کر کے تین دئے اور بھائیوں کو چھ چھ دیکر کل بیس ہو گئے۔

### چوتھی مثال:

ہندہ لاولد

۱۰

$\frac{2}{3}$

بہن

بھائی

بھائی

خاوند

$10 = 1$

۲

۲

۵

خاوند کے نصف (۱/۲) کے دو سے مجموعہ سہام افراد کو دوست ضرب دیکر دس اصل مسئلہ بنایا اور مجموعہ افراد کو ذوی الفرض کا سہام بنایا اور ذوی الفرض اور اس کے حصہ (۱/۴) سے ایک کم کر کے ایک لڑکی کا اور دو۔ دو بھائیوں کے حصہ قرار دئے۔

**وضاحت:** جب زوجہ لاولد کا انتقال ہو تو وراشت میں شوہر کا حصہ نصف ہوتا ہے۔ مذکورہ مثال میں ورثاء میں دو بھائی ایک بہن اور ایک شوہر ہے۔ بھائی بہنوں کے مجموعہ افراد پانچ بنتے ہیں جن کو دو میں ضرب دینے سے دس اصل مسئلہ بناتے جن میں سے پانچ شوہر کو ملے جو نصف ہے۔ ایک کم کر کے ایک بہن کو اور اس کا دو گناہ دو دنوں بھائیوں کو اگر بہن بھائیوں کی تعداد زیادہ ہو تو بھی طریقہ تقسیم یہی رہیگا۔

جسکی مثال حسب ذیل ہے:

حندہ لاولد

۱۸  
—  
۲

خاوند	بھائی	بھائی	بھائی	بہن	بہن	بہن
۹	۲	۲	۱	۱	۱	= ۱۸

مزید مثال:

حندہ لاولد

۳۰  
—  
۲

خاوند	بھائی	بھائی	بھائی	بھائی	بہن	بہن	بہن	بہن
۱۵	۲	۲	۲	۱	۱	۱	۱	= ۳۰

اسی طرح جتنے چاہے افراد کم زیادہ ہوں سب اسی طریقہ سے حصے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔  
(۱۲)

## پانچویں مثال:

زید بلازوجہ

۱۰

—  
۲

			بھائی	بھائی	بھائی	بھائی
			بھائی	بھائی	بھائی	بھائی
		۱	۲	۲	۲	۵
			ایضاً			

وضاحت: اگر ورشہ میں ذوی الفرض میں سے صرف بیٹی ہو۔ بیٹانہ ہو، بیوی بھی نہ ہو اور بھائی بہن ہوں تو چونکہ اس صورت میں بیٹی کا حصہ ترکہ میں نصف ہوتا ہے اس لئے مذکورہ بالاقاعدہ کے مطابق ہی بھائیوں کے دو دو اور بہن کا ایک شمار کر کے دو سے ضرب دیں گے جو کہ مجموعہ پانچ کا دو گناہ اصل مسئلہ بن جائے گا اور مجموعہ افراد پانچ یہ حصہ بیٹی کا ہو گا جو کل کا نصف ہے ( $\frac{1}{2}$ ) بیٹی کا ایک کم کر کے ایک ہو گا اور بھائیوں کا اس کا ڈبل یعنی دو دو دیئے جائیں گے۔ مجموعہ دس ہو کر تقسیم درست ہو گی۔ (۱۲۸)

## چھٹی مثال:

ضدہ بلازوں

۱۰

—  
۲

			بھائی	بھائی	بھائی	بھائی	بھائی
			بھائی	بھائی	بھائی	بھائی	بھائی
		۱	۲	۲	۲	۲	۵
			ایضاً				

وضاحت: اگر میت کے ورثاء میں صرف ایک بیٹی ہو اور بیٹانہ ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ اس مثال میں ( $\frac{1}{2}$ ) بیٹی کا ہے دو بھائی ایک بہن ہے اس لئے ایک بہن کا ہو گا اور اس کا دو گناہ یعنی دو دو ہر بھائی کا کل پانچ ہوئے جس کو دو میں ضرب دیکر اصل مسئلہ

دس بنایا۔ بہن بھائی کے حصص کا مجموعہ پانچ ہے وہ بیٹی کو دیا جو کل کا نصف ہے اور ایک بہن کو اور دو دو بھائیوں کو۔ جتنے بھی بھائی بہن ہوں یہی طریقہ تقسیم ہوگا۔

مزید مثال:

ہندہ بلا زونج

$\frac{18}{2}$

بیٹی	بھائی	بھائی	بھائی	بہن	بہن	بہن
۹	۲	۲	۱	۱	۱	$= 18$

قاعدہ نمبر ۶: مع ذوی الفرض دو بیک نوع

اور اگر میت کے ذوی الفرض دو ہوں اور دونوں یکساں حصہ کے ہوں اور پھر بیٹیاں ہوں۔

یا اولاً صرف ایک بیٹی ہو اور بھائی بہن کئی عصبہ ہوں تو مجموعہ حصہ افراد کو دو گناہ کر کے اصل حصہ ہر دو ذوی الفرض سے ضرب دیں گے اور حاصل ضرب کو اصل مسئلہ (مقدم) قرار دینے گے۔ اور مجموعہ افراد کو نصف و نصف کر کے دونوں ذوی الفرض کے نیچے لکھ دیں گے ذوی المفرض سے دو دو کم کر کے (یہ مجموعہ) بیٹی کو دیں گے اور اس کا دو گناہ دو گناہ ہر بیٹے کو۔

مثال:

ہندہ بلا زونج

$\frac{30}{4}$

بیٹیاں						
۵	۸	۸	۵	۵	۵	$= 30$

وضاحت: ماں باپ کا شرعی حصہ یکساں ہے یعنی ہر ایک کے لئے ایک بیٹہ چھے ۱/۶ ہے مثال مذکور میں میت کے ورثاء میں دو بیٹے ایک بیٹی علاوہ ماں باپ کے ہے جن کا مجموعہ حصہ پانچ بنتا ہے۔ دو دو بیٹوں کے ایک بیٹی کا اس کا دو گناہ دس ہے بیان کردہ اصول کے مطابق دس کو چھے سے جو ماں باپ کے سہام کا اصل مسئلہ ہے ضرب دیں گے تو حاصل ضرب ساٹھ ہو گا اس کا نصف تیس اصل مسئلہ بنا سکنے گے اور مجموعہ افراد عصبه جو پانچ ہے اس کو ہر دو ذوی الفروض یعنی ماں باپ کے نیچے لکھا گیا ہے کیونکہ یہی ۳۰ کا (۱) ہے اور ذوی الفروض کے حصہ مذکورہ میں سے دو دلیں گے تو اس کا مجموعہ چار ہو گا جو بیٹی کو دیا گیا ہے۔ اور چار کا دو گناہ آٹھ ہے وہ ہر بیٹے کا حصہ ہے اس طرح پانچ ماں باپ کے آٹھ آٹھ بیٹوں کے اور چار بیٹی کے کل کا مجموعہ تیس ہو کر حساب درست ہو گا اسی طرح جتنی چاہیں مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ (۱۲خ)

مثلا:

ضدہ بلازوں

۵۲

۲

ماں	باپ	بیٹا	بیٹا	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹی
۹	۹	۸	۸	۲	۲	۲	۲

مثلا:

ضدہ بلازوں

۴۴

۴

ماں	باپ	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹا	بیٹی
۱۱	۱۱	۸	۸	۸	۸	۳	۳

مثال:

ضدہ بلازونج

- ۲۲ -

۶

ماں	باپ	بیٹا	بیٹی	بیٹی	بیٹی	بیٹی
۷	۷	۸	۳	۳	۳	۳

$3 \times 3 = 9$

جب دو ذوی الفرض ہوں تو اسی قاعدہ کے مطابق حصہ نکال لئے جائیں یہ جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں وہ اسی صورت میں ہیں کہ ذوی الفرض دو ہیں اور کئی بیٹیاں ہیں۔ اب چند مثال مذکورہ قاعدے کے مطابق اس صورت کی دی جاتی ہیں جبکہ ذوی الفرض دو ہوں اور صرف بیٹی ہو بیٹانہ ہوا بنتہ بھائی بہن ہوں تو تقسیم کس طرح ہوگی۔

ضدہ بلازونج

۱۸

۶

ماں	اخیافی بھائی	عینی بھائی				
۳	۳	۸	۸	۳	۳	۳

$3 \times 3 = 9$

دوسری مثال:

ضدہ بلازونج

۵۳

۶

ماں	اخیافی بھائی	عینی بھائی					
۳	۹	۸	۸	۸	۳	۳	۹

جب میت کے باپ دادا موجود نہ ہوں اور بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو اور اخیافی بھائی (جو صرف ماں شریک ہے باپ دونوں کا جدا ہے) ہو تو اس وقت وہ ذوی الفرض میں

داخل ہے اور اس کا چھٹا حصہ ہے۔ مذکورہ دونوں مثالوں میں میت کے چونکہ بیٹا بیٹی نہیں ہے اس لئے اخیانی بھائی ذوی الفرض میں سے ہے جو چھٹے حصہ کا حامل ہوگا اب ذو ذوی الفرض ہو گئے ایک ماں اور ایک اخیانی بھائی۔ ان سے جو بچے گاوہ عینی بھائی بہنوں کو مل جائیگا کہ وہ عصبات میں موجود ہیں۔ لذکر مثل حظ الانشین کے اصول کے مطابق ہر بہن کے حصہ سے ہر بھائی کا دو گنا ہوگا چنانچہ پہلی مثال کی وضاحت یہ ہے کہ بہن کا ایک بھائی کے دو حصے دونوں کا مجموعہ تین ہے۔ اس کو ڈبل کر کے ۲ بنایا، پھر ماں اور اخیانی بھائی کا حصہ چونکہ چھ چھ ہے اس کو چھ سے ضرب دی تو کل چھتیس سہام بنے جس کے نصف اٹھارہ ہوتے ہیں ان کو اصل مسئلہ بنایا۔ عینی بہن بھائیوں کے مجموعہ تین کو دونوں ذوی الفرض ماں اور اخیانی بھائی کے نیچے تین تین لکھ دیا اور پھر ان کے حصہ میں سے دو دو لیکر جمع کر کے ۴ عینی بہن کو اور اس کا دو گنا یعنی آٹھ عینی بھائی کو دیا تو تقسیم صحیح ہو کر اٹھارہ مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال میں کر لیجئے۔ (۱۲)

مفتقی صاحب قدس سرہ کے تحریر فرمودہ مندرجہ بالا قواعد ہی اخقر کو ملے تھے جو لکھدے گئے ہیں اگر آئندہ کسی اور جگہ کوئی تحریر مفتقی صاحب کی اس سے متعلق ملی تو وہ شامل کر دی جائیگی۔ لعل اللہ بحدث بعد ذلک امراء۔

فقط خلیل احمد تھانوی

۱۳۲۲ھ صفر



Designed: Abdul Nasir Jamal Chitral